

حضور علیؑ کی
پہلوں سے محبت

مصنف:

علامہ سید شاہ تراز لحق قادری
دامت برکاتہم العالیہ



ناشر: بزم رضا (حلقہ کھارادر)

المسلم ویلفیر سوسائٹی نزد بسم اللہ مسجد کھارادر۔ کراچی (پاکستان)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْكَ وَسَلَّمَ

یک زمانہ صحبت با اولیاء
بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

اللّٰهُ اللّٰهُ کَیْ جَلَنِي مِنَ اللّٰهِ نَصْرًا
اللّٰهُ وَلِيٌّ لِّرَهَابِ جِوَاللّٰهِ مَلَأْتِي هَيْبَةً

برائے ایصالِ ثواب

پیرِ طریقت ولیِ نعمت مُرشدی مولائی آقائی سیدی وسندی فیضت شیخ اُستاد العلماء حضرت علامہ

الحافظ القاری **محمد مصباح الدین** صدیقی قادری رضوی نور اللہ مرقدہ کے سالانہ
عرس کے تبرک، مقدس اور پُرسعادت موقع پر **بزمِ رضا** (حلقہ کھارادر) کی جانب سے اہل بیت
کے لئے پُر خلوص تحفہ

بلد ایصالِ ثواب سرکارِ مدینہ حبیب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم وکل محبوبین الہی نور اللہ مرقدہ وخصوصاً
صاحب عرس حضرت علامہ قاری محمد مصباح الدین صدیقی قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ۔

نوٹ: جن حضرات نے اس نیک کام میں تعاون فرمایا اللہ تعالیٰ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کے صدقے و طفیلے اس کے لئے تعاون کو قبول فرمائے اور انہیں دینے و دنیا میں
فیرو برکتے عطا فرمائے (آمین)

بزمِ رضا (حلقہ کھارادر)

المسلم ویلقی عشر سواً طے نزد بزم اللہ مسی
کھارادر کراچی

فون: 2313232-2313233

موبائل نمبر: 0303-6202233

رابطے کے لیے
ہمارا واحد پتہ

حضرت علیؓ کی
پہلوں سے محبت

مصنف:

علامہ سید شاہ تراز الحق قادری
دامت برکاتہم العالیہ

ناشر: بزم رضا (حلقہ کھارادر)

المسلم ویلفیر سوسائٹی نزد بسم اللہ مسجد کھارادر۔ کراچی (پاکستان)

Phone: 2313232, 2313233 Mobile: 0303-6202233

حضور ﷺ کی پنچوں سے محبت	کتاب
پیر طریقت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری	مؤلف
انجینئر حافظ محمد آصف قادری	مرتب
انجینئر حافظ محمد عارف قادری	پروف ریڈنگ
محمد رئیس قادری، محمد علی قادری، کنور فرحان	معاونین
الرضا کمپوزرز، اسلام آباد	کمپوزنگ
ربیع الاول ۱۴۲۱ھ / جون ۲۰۰۰ء	طباعت بار اول
شعبان المعظم ۱۴۲۲ھ / نومبر ۲۰۰۱ء	طباعت دوئم
بزم رضا (حلقہ کھلادہ) المسلمین فیئر سوسائٹی نزد بسم اللہ مسجد کھلادہ۔ کراچی (پاکستان)	ناشر

﴿ملنے کے پتے﴾

- ☆ مکتبہ افکار اسلامی، جامع مسجد کنز الایمان، آئی ٹن ون، اسلام آباد
- ☆ مصلح الدین لائبریری، مین مسجد مصلح الدین گارڈن، کراچی
- ☆ مکتبہ قادریہ، نزد ستا ہوٹل، داتا دربار مارکیٹ، لاہور
- ☆ مکتبہ سعیدیہ، جامعہ قادریہ رضویہ، مصطفیٰ آباد، فیصل آباد
- ☆ حنفیہ پاک پبلی کیشنز، نزد بسم اللہ مسجد کھلادہ، کراچی
- ☆ مکتبہ رضویہ، گاڑی کھاتہ، آرام باغ، کراچی
- ☆ قادریہ پبلیشرز کارابھائی کریم جی روڈ نیا آباد کراچی

فہرست

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
62	بچوں کی آپ سے محبت	08	ہمارے پیارے آقا ﷺ
64	جمالِ مصطفیٰ ﷺ کا بیان	13	والدین کی محبت و تعظیم
68	سب سے کم سن امام	15	رضاعی والدہ کا ادب
69	یتیم بچوں سے محبت	19	والدہ کے بعد قابلِ احترام
72	غلاموں سے محبت	21	بچوں پر رحمت
77	حضرت اسامہ سے محبت	23	بچیوں پر رحمت
80	اپنے خادم سے محبت	27	حضور ﷺ کی اولاد سے محبت
85	بچوں کی تعلیم و تربیت	32	امام حسن و امام حسین سے پیار
91	بچوں کی تربیت میں سختی	37	خاندان کے بچوں سے پیار
95	دو کم عمر مجاہد	39	بچوں کے لیے برکت کی دعا
98	بچوں میں جہاد کا شوق	43	بچوں کے نام اور عقیدہ
100	شوقِ شہادت اور آنسو	45	بچوں کے حقوق
103	سلمہ بن اکوع کی بہادری	48	حضور ﷺ کی برکتیں
105	کم عمر پہرے دار	51	بچوں کے مشکل کشا
107	شہداء کے بہادر بیٹے	55	بچوں کے لیے دمِ تعویذ
109	جان ہے عشقِ مصطفیٰ ﷺ	57	بچوں سے محبت کی تعلیم

پیش لفظ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على من لا نبي بعده
 ہمارے پیارے آقا و مولیٰ ﷺ پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کا آغاز اس
 لفظ سے ہوا، ”اقرا“ یعنی پڑھ، گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا حکم پڑھنے کے
 متعلق دیا گیا۔ حضور اکرم ﷺ جو دین لے کر آئے اس میں سب سے زیادہ اہمیت
 علم سیکھنے کی ہے اسی لیے ارشاد ہوا، علم سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔
 نبی کریم ﷺ کی برکت سے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں میں بھی دین
 سیکھنے کا شوق پیدا ہوا انہی میں سے بعض بچے بڑے ہو کر نامور عالم اور فقیہ بنے۔
 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو کون نہیں جانتا۔ ایک دن انہوں نے جان
 کائنات ﷺ کے لیے وضو کا پانی حاضر کیا۔ آپ نے دعا فرمائی، ”اے اللہ! اسے دین
 کی سمجھ عطا فرما۔“ اور یہ دعا بھی فرمائی، ”اسے کتاب سکھا دے۔“ (بخاری)
 نور مجسم ﷺ کی دعا کے طفیل ابن عباس رضی اللہ عنہما تیرہ برس کی عمر میں
 قرآن و حدیث کے ایسے عالم بن گئے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام آیات کی تفسیر
 پوچھنے انکے پاس آیا کرتے۔ آپ کا علم اور دانائی دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر اہم
 معاملے میں جلیل القدر صحابہ کرام کے ساتھ آپ سے ضرور مشورہ کیا کرتے
 تھے۔ آپ نے نبی کریم ﷺ سے کثیر تعداد میں احادیث روایت فرمائی ہیں۔ آپ کا
 ارشاد ہے، ”رات میں ایک لمحہ علم کا درس تمام رات جاگنے سے افضل ہے۔“

جب حضور ﷺ نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی اسوقت حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی عمر ۱۱ سال تھی اور آپ نے قرآن کریم کی سترہ سورتیں زبانی یاد کی ہوئی تھیں۔ حضور ﷺ نے آپ کا علم حاصل کرنے کا شوق دیکھ کر آپ کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تو آپ نے صرف پندرہ دن میں عبرانی سیکھ لی۔ پھر آپ کو سریانی زبان سیکھنے کا حکم دیا گیا تو آپ نے سترہ دن میں سریانی بھی سیکھ لی۔ اسکے بعد سے نبی کریم ﷺ ان زبانوں میں خطوط آپ ہی سے لکھوایا کرتے۔

سرکارِ دو عالم ﷺ کے وصال کے وقت امام حسن رضی اللہ عنہ کی عمر سات سال اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر چھ سال تھی۔ اتنے کم عمر ہونے کے باوجود امام حسین رضی اللہ عنہ نے رسول کریم ﷺ سے آٹھ احادیث جبکہ امام حسن رضی اللہ عنہ نے تیرہ احادیث روایت کی ہیں۔ اتنی سی عمر میں احادیث مبارکہ یاد رکھنا محض حافظہ کا کمال نہیں، علم کے شوق اور آقا کریم ﷺ سے محبت کی دلیل ہے۔

موجودہ دور میں عموماً لوگ ماہ رمضان میں یا شبِ برات وغیرہ میں دینی علم حاصل کرنے کے بجائے قرآن کریم تلاوت کرنے یا نوافل پڑھنے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اگرچہ یہ سب ثواب ہی کے کام ہیں لیکن دین کا علم سیکھنا خواہ درس کی صورت میں ہو یا دینی کتاب کے ذریعے، زیادہ اہم ہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے دینی علم سیکھنے سکھانے کو نفل عبادات ادا کرنے پر ترجیح دی ہے۔

ایک دن نبی کریم ﷺ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک طرف لوگ عبادت و دعا میں مشغول ہیں اور دوسری طرف دینی علم سیکھنے اور

سکھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا، یہ دونوں مجلسیں بھلائی پر ہیں لیکن دین سیکھنے سکھانے والے افضل ہیں اور میں بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ فرما کر آپ علم سیکھنے سکھانے والی مجلس میں تشریف فرما ہوئے۔ (مشکوٰۃ)

مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد علم کی فضیلت پر اپنے رسالہ فضل العلم والعلماء میں لکھتے ہیں؛

حضرت ابو ذر راضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے ایک مسئلہ سیکھنا رات بھر کی عبادت سے زیادہ عزیز ہے۔ ایک بزرگ نے خواب میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور پوچھا، بعد وصال کیا حال رہا؟ فرمایا، ”مجھے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اور فرمایا، اگر تجھے عذاب دینا ہوتا تو علم عطا نہ فرماتا۔“

علم سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت پر یہ احادیث بھی ملاحظہ فرمائیں۔

”جو علم دین سیکھنے کے لیے کسی راہ پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے، بیشک طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بٹھادیتے ہیں اور آسمان و زمین کی تمام مخلوق اور پانی میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں اور یقیناً عالم کی فضیلت عابد پر وہی ہے جو چودھویں کے چاند کی ستاروں پر۔“ (ترمذی)

”اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا

فرماتا ہے۔“ (بخاری)

”جب انسان مر جاتا ہے تو اسکے اعمال کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے مگر

تین چیزوں کا ثواب اسے ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ اول صدقہ جاریہ، دوم وہ علم جس سے

لوگوں کو فائدہ ہو اور سوم وہ نیک اولاد جو اسکے لیے دعا کرتی رہے۔“ (مسلم)

اولاد کی اچھی تربیت کی اہمیت کا اندازہ اس مبارک قول سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ ”اولاد کی صحیح تربیت نوافل سے بہتر ہے۔“ (ردالمحتار) ضرورت اس امر کی ہے کہ بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی جائے۔

زیر نظر کتاب ”حضور ﷺ کی بچوں سے محبت“ عارف ربانی مفکر اسلام پیر طریقت حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری جیلانی دامت برکاتہم القدسیہ کی ایمان افروز تصنیف ہے جو نہ صرف بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے نہایت اہم ہے بلکہ بڑے بھی اسے اپنے لیے یکساں مفید پائیں گے۔

دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے حضرت شاہ صاحب قبلہ کی کاوشوں سے اہل نظر خوب آگاہ ہیں۔ امریکہ، جنوبی افریقہ، تیزانیہ، سری لنکا، برطانیہ اور جرمنی کے تبلیغی دورے، کم و بیش روزانہ جلسوں میں تقاریر، تصنیف و تالیف کا سلسلہ، دارالعلوم امجدیہ کے ناظم تعلیمات کی ذمہ داری اور پھر جماعت اہل سنت کراچی کے امیر کی حیثیت سے ذمہ داریاں ادا کرنا، بیشک اللہ تعالیٰ اور اسکے حبیب ﷺ کا آپ پر خاص فضل و کرم اور بزرگان دین کا فیضان ہے کہ آپ یہ تمام امور حسن و خوبی انجام دے رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اس کتاب کو نافع خلاق بنائے اور حضرت شاہ صاحب قبلہ مدظلہ العالی کا سایہ رحمت و شفقت ہم پر دراز فرمائے۔ آمین

حکیمائے علمائے حق، محمد آصف قادری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہمارے پیارے آقا ﷺ :

ہمارے پیارے آقا حضرت محمد ﷺ عرب کے مشہور شہر مکہ میں بارہ ربیع الاول کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ عیسوی لحاظ سے آپ کی تاریخ ولادت ۲۰ اپریل ۱۷۱۵ء ہے۔ تمام دنیا کے مسلمان حضور اکرم نور مجسم ﷺ کی ولادت باسعادت کی خوشی میں ہر سال بارہ ربیع الاول کو نہایت عقیدت و محبت سے عید میلاد النبی ﷺ مناتے ہیں۔

ہر نبی پیدا کنشی نبی ہوتا ہے البتہ اعلان نبوت وہ اس وقت کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آجائے۔ آقا و مولیٰ ﷺ کا فرمان عالیشان ہے، ”میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق نہیں کیا گیا تھا“۔ (۱)

نبوت کے اعلان سے قبل بھی نبی کریم ﷺ کی ذات پاک سے نبوت کی علامات ظاہر ہوئیں۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے،

”میری والدہ ماجدہ نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان سے ایسا نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔“ (۲)

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آقائے دو جہاں ﷺ کے ساتھ مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ جو درخت یا پتھر رسولِ معظم نورِ مجسم ﷺ کے سامنے آتا وہ یہ کہتا، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ (۳)

سرکارِ دو عالم ﷺ کا ارشاد ہے، ”میں مکہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میرے اعلانِ نبوت سے قبل مجھے سلام کیا کرتا تھا۔“ (۴)

نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور آخری رسول ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ ﷺ کے والد آپ کی پیدائش سے چھ ماہ قبل وفات پا گئے تھے۔ عرب کے رواج کے مطابق آپ ﷺ کی پرورش حضرت نبی نبی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا

نے کی۔ جب آپ ﷺ کی عمر چھ سال ہوئی تو آپ کی والدہ بھی انتقال کر گئیں اس طرح آپ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے۔

والدین کے انتقال کے بعد آپ ﷺ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے کی۔ جب آپ ﷺ کی عمر آٹھ سال ہوئی تو آپ کے دادا بھی وفات پا گئے پھر آپ کی پرورش آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی۔ حضور ﷺ بچپن ہی سے کھیل کود کی طرف مائل نہ ہوئے۔ آپ فضول باتوں اور لغو کاموں سے دور رہتے۔ آپ ﷺ کے پسندیدہ اخلاق کی وجہ سے اعلانِ نبوت سے پہلے ہی لوگ آپ کو ”صادق“ (سچا) اور ”امین“ (امانت دار) کے لقب سے پکارنے لگے۔

بارہ برس کی عمر میں آپ ﷺ نے اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کی طرف پہلا تجارتی سفر کیا پھر رفتہ رفتہ تجارتی کاموں میں آپ ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ آپ ﷺ ہمیشہ سچ بولتے، جب کوئی وعدہ کرتے تو ضرور پورا کرتے۔ آپ نہ تو کسی کو دھوکہ

یتے اور نہ ہی امانت میں خیانت کرتے۔ انہی اعلیٰ خوبیوں کے باعث آپ ﷺ جلد ہی ایک دیانتدار تاجر کی حیثیت سے مشہور ہو گئے۔

آپ ﷺ نے پچیس سال کی عمر میں پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیا جو نہایت پاکیزہ اخلاق والی بیوہ تھیں۔ چالیس سال کی عمر میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ پھر آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور دین حق کی تبلیغ شروع کر دی۔ کفار و مشرکین آپ کے دشمن ہو گئے۔

نبوت کے تیرھویں سال آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور کچھ ہی عرصہ میں یہاں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ کافروں سے متعدد جنگیں بھی ہوئیں جن میں بدر، احد، خندق اور خیبر کی جنگیں زیادہ مشہور ہیں۔ رفتہ رفتہ عرب کے علاوہ دور دراز کے ملکوں تک اسلام کی روشنی پھیل گئی۔

رسول کریم ﷺ کی ازواجِ مطہرات کی تعداد گیارہ ہے

جن کے اسمائے گرامی حسب ذیل ہیں۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا..... حضرت سوودہ رضی اللہ عنہا.....
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا..... حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا..... حضرت اُمّ
 سلمہ رضی اللہ عنہا..... حضرت اُمّ حبیبہ رضی اللہ عنہا..... حضرت زینب
 بنت جحش رضی اللہ عنہا..... حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا.....
 حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا..... حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا..... حضرت
 صفیہ رضی اللہ عنہا۔

حضور ﷺ کی اولاد مبارک کی تعداد سات ہے۔

حضرت زینب رضی اللہ عنہا..... حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا.....
 حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا..... حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا۔
 حضرت قاسم رضی اللہ عنہ..... حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ.....
 حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ۔

نبی کریم ﷺ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے
 پیدا ہوئی سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے جو آپ کی باندی

حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے۔ بارہ ربیع الاول پیر
کے دن آقا و مولیٰ ﷺ کا وصال ہو گیا۔ (۵)

تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ سب انبیاء کرام اپنی
فیروں میں زندہ ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور رزق دیے جاتے
ہیں۔ (۶)

آقائے دو جہاں ﷺ کا ارشادِ گرامی ہے، ”جمعہ کے دن
مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرو کیونکہ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔
وہ شخص بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے اسکی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے
تو اہ وہ کہیں بھی ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ!
یا آپ کے وصال کے بعد بھی؟ آپ نے فرمایا، ”ہاں میرے
صال کے بعد بھی۔ بیشک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ
انبیاء کے جسموں کو کھائے“۔ (۷)

الدین کی محبت و تعظیم :

آقائے دو جہاں ﷺ کا ارشادِ گرامی ہے، ”جنت ماں کے

قدموں کے نیچے ہے۔“ (۸) ایک شخص نے بارگاہِ نبوی میں عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ دونوں تیر کی جنت اور دوزخ ہیں یعنی ان کو راضی رکھنے سے تجھے جنت ملے گی اور انہیں ناراض رکھنے کا انجام دوزخ ہے۔ (۹)

آقا و مولیٰ ﷺ کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنے والدین کا ادب کریں اور انکا کہنا مانیں۔ اگر وہ بوڑھے ہو گئے ہوں تو ان کی ضروریات کا زیادہ خیال رکھیں اور کوئی ایسی بات نہ کریں جو انہیں ناگوار ہو۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور اسکا محبوب رسول ﷺ بھی۔

نبی کریم ﷺ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ کی پیدائش سے پہلے وصال فرما چکے تھے۔ اس لیے آپ اپنی والدہ سے یحسب محبت کرتے تھے۔ آپ اکثر ان باتوں کو یاد فرماتے جو آپ نے اپنی والدہ کے قیام کے دوران مدینہ منورہ میں دیکھی تھیں۔

آپ جب اس مکان کو دیکھتے جہاں آپ کی والدہ ماجدہ ٹھہری تھیں تو آپ فرماتے، مجھے یاد ہے کہ اس مکان میں میری والدہ نے قیام فرمایا تھا اور آنے والے یہودی میری طرف دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ یہ اس امت کا نبی ہے اور ایک دن ہجرت کر کے یہ اس شہر مدینہ میں آئے گا۔ مجھے یہ سب باتیں یاد ہیں۔ (۱۰)

حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کو آپ ﷺ سے کس قدر محبت تھی اسکا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضور ﷺ انکے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت انہوں نے فرمایا، ”ہر زندہ مرجائے گا اور ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی۔ میں بھی فوت ہو جاؤں گی مگر میرا ذکر ہمیشہ زندہ رہے گا کیونکہ میں نے ایک نیک نخت یادگار چھوڑی ہے اور ایک پاکیزہ ہستی کو جنم دیا ہے۔“ (۱۱)

رضاعی والدہ کا ادب :

سرکارِ دو عالم ﷺ نے سات دن تک اپنی والدہ ماجدہ کا

دودھ پیا پھر چند دن تک حضرت ثویبہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس نسبت سے حضرت ثویبہ رضی اللہ عنہا آپ کی رضاعی والدہ ہیں۔ آقا کریم ﷺ ان کا بہت احترام کرتے تھے اور اکثر انہیں مدینہ طیبہ سے کپڑے اور دوسرے تحفے بھیجتے تھے۔ (۱۲)

یہ ابو لہب کافر کی وہی لونڈی تھیں جنہیں اُس نے حضور ﷺ کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسے خواب میں بہت بری حالت میں دیکھا اور پوچھا، مرنے کے بعد تیرا کیا حال رہا؟ ابو لہب نے کہا، تم سے جدا ہو کر میں نے کوئی راحت نہیں پائی سوائے اس کے کہ مجھے (اپنی انگلی چوس لینے سے) تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے کیونکہ میں نے محمد (ﷺ) کی پیدائش کی خوشی میں (اس انگلی کے اشارے سے) ثویبہ کو آزاد کیا تھا۔ (۱)

محمد ثین فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ کی پیدائش کی

خوشی منانے کی وجہ سے ابو لہب جیسے کافر کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے حالانکہ اس نے بھتیجا پیدا ہونے کی خوشی منائی تو ان ایمان والوں کو کتنا ثواب دیا جائے گا جو رسول اللہ ﷺ کے میلاد کی خوشی مناتے ہیں اور اس پر مال خرچ کرتے ہیں۔ ان کی جزا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں جنت میں داخل فرمادے۔ (۱۳)

عرب میں رواج تھا کہ بچوں کو اچھی آب و ہوا میں پرورش کے لیے دیہات میں بھیج دیتے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ کو حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے ساتھ لے گئیں اور انہوں نے آپ کی پرورش کی۔ آپ ﷺ کی برکت سے انکے کمزور جانور فربہ ہو گئے اور انکی لاغر بچریاں دودھ دینے لگیں۔ چند ہی دنوں میں یہ گھرانہ خوشحال ہو گیا۔

حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہمارے گھر پشمارا برکتوں کا نزول دیکھ کر سب قبیلے والوں کے دلوں میں حضور ﷺ

کی عظمت و محبت پیدا ہو گئی یہاں تک کہ جب قبیلے کا کوئی آدمی یا جانور بیمار ہو جاتا تو وہ اس کو لے کر ہمارے گھر آجاتے اور آپ ﷺ کا مبارک ہاتھ مریض کے جسم پر پھرتے تو وہ تندرست ہو جاتا۔ (۱۵)

آقائے دو جہاں حبیبِ کبریا ﷺ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت و احترام سے پیش آتے تھے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا ملنے آئیں تو آپ ﷺ میری ماں، میری ماں کہہ کر جوشِ محبت سے ملے اور انکے لیے اپنی چادر پچھادی۔

ایک اور موقع پر انہوں نے حاضر ہو کر قحط سالی کی شکایت کی تو آقا کریم ﷺ نے انہیں چالیس بکریاں اور سامان سے لدا ہوا ایک اونٹ بھی عطا فرمایا۔ (۱۶)

ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آقا و مولیٰ ﷺ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی قبر پر تشریف لے جاتے تھے۔ (۱۷)

والدہ کے بعد قابلِ احترام :

نبی کریم ﷺ اپنی آیا حضرت اُمّ ایمن رضی اللہ عنہا کا بھی بہت خیال رکھتے تھے جو آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی لونڈی تھیں اور جنہوں نے بچپن میں آپ کے کپڑوں کی دھلائی اور دیگر ضروریات کا خیال رکھا تھا۔ آپ ﷺ اپنی والدہ ہی کی طرح انکا ادب و احترام فرماتے تھے۔ آپ کا ارشادِ گرامی ہے، اُمّ ایمن رضی اللہ عنہا میری ماں کے بعد میری ماں کی جگہ ہیں۔ (۱۸)

ایک شخص نے بارگاہِ رسالت میں دعا کی درخواست کی۔ حضور ﷺ نے فرمایا، تم اپنی والدہ سے اچھا سلوک کرو۔ اس نے عرض کی، میری والدہ فوت ہو چکی ہیں۔ آپ نے فرمایا، ”پھر تم اپنی خالہ کے ساتھ بھلائی کرو“۔ معلوم ہوا کہ والدین کے بعد اُنکے قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔

حضور ﷺ کی والدہ کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ

عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے آپ کی پرورش

فرمائی۔ آپ کو ان سے بہت محبت تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو پہلے حضور ﷺ خود کچھ دیر کے لیے انکی قبر میں لیٹے، پھر آپ نے اپنی مبارک چادر انکے کفن کے لیے عطا فرمائی۔

انہیں دفن کرنے کے بعد آپ انکے لیے دیر تک دعا فرماتے رہے پھر ارشاد فرمایا، یہ میری والدہ کی طرح ہیں، میری والدہ کے بعد انہوں نے نہایت محبت و شفقت سے میری پرورش کی۔ میں انکی قبر میں اس لیے لیٹا تاکہ میری برکت اسے انہیں قبر میں کوئی تکلیف نہ ہو، اور اپنی چادر کا کفن اس لیے دیا تاکہ وہ اسکی برکت سے دوزخ کی آگ سے محفوظ رہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ آقا کریم ﷺ نے ان کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے میری ماں! اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ میری ماں کے بعد ماں تھیں، آپ خود بھوکی رہتیں مگر مجھے کھلاتیں تھیں اور آپ کو خود لباس کی ضرورت ہوتی مگر مجھے پہناتی تھیں۔ (۱۹)

ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین اور اپنے بڑوں کا ادب و احترام کریں اور ان کے انتقال کے بعد انکے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ والدین کی وفات کے بعد انکے حقوق کے متعلق نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے، انکے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرنا، انکے کیے ہوئے وعدے پورے کرنا، انکے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا اور انکے دوستوں کا احترام کرنا۔ (۲۰)

بچوں پر رحمت :

حضور ﷺ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ جس طرح بڑوں کے لیے رحمت ہیں اسی طرح بچوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ آپ ﷺ بچوں پر بہت شفقت فرماتے، انہیں اپنے پاس بلا تے، ان کے سر پر محبت سے اپنے مبارک ہاتھ پھرتے اور ان کے لیے دعا فرماتے۔ جب ننھے ننھے بچے آپ ﷺ کی خدمت میں لائے جاتے تو آپ انہیں اپنی گود میں لے لیتے اور خوب پیار کرتے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ

بچے تو اللہ تعالیٰ کے باغوں کے پھول ہیں۔ (۲۱)

ایک روز اُمّ قیس رضی اللہ عنہا اپنے شیر خوار بچے کو بارگاہِ نبوی میں لیکر آئیں۔ آپ نے نہایت شفقت سے اس بچہ کو اپنی گود مبارک میں لے لیا۔ اس بچہ نے پیشاب کر دیا۔ آقا کریم ﷺ نے اس پر پانی بہا دیا اور کوئی ناراضگی بھی ظاہر نہ فرمائی۔ (۲۲)

آپ ﷺ صرف مسلمان بچوں سے ہی شفقت و رحمت کا سلوک نہ فرماتے بلکہ آپ کو غیر مسلموں کے بچوں سے بھی ہمدردی تھی اس لیے آپ مسلمانوں کو جہاد پر روانہ کرتے وقت نصیحت فرماتے، خبردار! بچوں کو ہرگز قتل نہ کرنا۔

ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا، ہر جان خدا تعالیٰ کی فطرت پر پیدا ہوتی ہے، بعد میں اسکے کافر والدین اسے کافر بنا دیتے ہیں۔ (۲۳)

رحمتِ عالم ﷺ صرف انسانوں کے بچوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جانوروں کے بچوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ ایک

شخص نے کسی پرندے کے بچے پکڑ لیے تھے۔ آپ ﷺ نے اسے

حکم دیا کہ ان بچوں کو وہیں رکھ دو جہاں سے لائے ہو۔ (۲۴)

اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جانوروں کو

تنگ کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو پسند نہیں ہے۔

نبی کریم ﷺ نے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا جس نے

کنوئیں سے اپنے موزے کے ذریعے پانی نکال کر ایک پیاسے کتے

کو پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس نیکی پر اسے بخش دیا۔ صحابہ کرام نے

عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! کیا جانوروں کے ساتھ اچھے سلوک

کا اجر ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر جاندار کے ساتھ بھلائی کا ثواب

ہے۔ (۲۵)

بچیوں پر رحمت :

اسلام کی روشنی پھیلنے سے قبل لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی

زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں زمانہء

جاہلیت کا یہ واقعہ سنایا۔ یا رسول اللہ ﷺ! ہم دور جاہلیت میں

لڑکی کو مار ڈالتے تھے۔ میرے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ جب وہ کچھ بڑی ہو گئی تو میں نے اسکے قتل کا ارادہ کیا۔ میں نے اسے گھر سے باہر بلایا، وہ خوشی خوشی میرے ساتھ آگئی۔

میں اسے لیکر ایک کنوئیں پر پہنچا اور اسے منڈیر پر کھڑا کر دیا۔ وہ مجھے پیار سے لبا جان لبا جان کہتی رہی اور میں نے اسے دھکا دیکر کنوئیں میں گرا دیا۔ یہ سن کر حضور ﷺ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا، یہ قصہ پھر سناؤ۔ اس نے یہ قصہ پھر سنایا تو آقا ﷺ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ (۲۶)

رحمتِ عالم ﷺ نے نہ صرف لڑکیوں کے قتل کی سختی سے ممانعت فرمائی بلکہ مسلمانوں کو یہ تعلیم بھی دی کہ لڑکی کی پیدائش پر غمگین ہونا ہرگز جائز نہیں۔ اولاد لڑکا ہو یا لڑکی، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے۔ آپ نے لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا، ”جس شخص پر بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اور اس نے انکے ساتھ اچھا سلوک کیا یعنی انکی اچھی تربیت کر کے نکاح کر دیے، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کی دیوار بن جائیں گی۔“ (۲۷)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے کچھ کھانے کو مانگا۔ میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا، میں نے وہی اسے دے دی۔ اس عورت نے کھجور کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں لڑکیوں کو دے دی اور خود نہیں کھائی۔

جب حضور ﷺ تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہوں اور وہ انکے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا وسیلہ ہو جائیں گی۔ (۲۸)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ لڑکیوں کی اچھی پرورش

کرنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث اور نجات کا وسیلہ ہے۔

بیٹیوں کو بیٹوں کے برابر باعزت مقام دلوانا حضور ﷺ کی بیٹیوں پر خاص رحمت ہے۔ آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”جس گھر لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرنے اور نہ تو اس کی تو کرے اور نہ ہی بیٹیوں کو اس پر ترجیح دے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا“۔ (۲۹)

آپ ﷺ کا ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ ”اپنی اولاد کو برابر درجہ دو، اگر میں کسی کو فضیلت دیتا تو لڑکیوں کو فضیلت دیتا“۔ (۳۰) ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا، ”اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو یہاں تک کہ بوسہ لینے میں بھی“۔ (۳۱)

آقائے دو جہاں ﷺ کا ارشاد ہے، جب کسی کے گھر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آکر کہتے ہیں، اے گھر والو! تم پر سلامتی ہو۔ یہ کمزور جان ہے جو ایک

عز ورجحان سے پیدا ہوئی ہے، جو اسکی پرورش اور نگہبانی کرے گا
سے قیامت تک اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل رہے گی۔ (۳۲)

حضور ﷺ کی اپنی اولاد سے محبت :

آقا و مولیٰ ﷺ رحمت و محبت کا مجسم پیکر تھے۔ آپ جس
مرح سارے بچوں سے محبت کرتے، ایسے ہی آپ اپنی اولاد سے
محبت فرماتے تھے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے حضور
ﷺ کے بچے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ انہوں نے
بہت کم عمر میں وفات پائی۔ انکے انتقال سے کچھ دیر قبل نبی کریم
ﷺ انکے پاس تشریف لائے اور انہیں اپنی مبارک گود میں اٹھا
لیا۔ ان کی آخری سانس جاری تھی، یہ دیکھ کر رؤف و رحیم آقا
ﷺ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔

ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! آپ رو
رہے ہیں؟ فرمایا، ”یہ تو محبت اور رحمت ہے۔ آنکھیں آنسو بہاتی
ہے اور دل غم زدہ ہے لیکن ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کی

مرضی ہے۔ اے ابراہیم! ہم تیری جدائی میں بہت غمزد
ہیں۔ (۳۳)

اُمّ المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے حضور ﷺ کے
دو بیٹے اور چار بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ دونوں بیٹے حضرت قاسم اور
حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے۔ آپ اپنی
بیٹیوں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت اُمّ کلثوم اور
حضرت فاطمہ (رضی اللہ عنہن) سے بہت محبت کرتے تھے۔

حضرت زینب رضی اللہ عنہا ان میں سب سے بڑی تھیں۔
جب ان کا انتقال ہوا تو حضور ﷺ بہت افسردہ اور غمگین ہوئے۔
آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے
فرمایا، ”زینب میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت
میں ستائی گئی۔“ آپ نے انکے کفن کے لیے اپنی چادر بھی عطا
فرمائی تاکہ انہیں برکت حاصل ہو۔

حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا بیٹا علی رضی اللہ عنہ کم عمری ہی میں

تیا گیا جبکہ انکی بیٹی جس کا نام امامہ رضی اللہ عنہا تھا، حضور ﷺ کو
 تپاری تھیں۔ ۸ھ میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے انتقال
 کے بعد سے اٹھ تک انکی پرورش انکے نانا نبی کریم ﷺ ہی نے
 مائی۔ ایک بار حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ایک قیمتی انگوٹھی
 گاہ رسالت میں بطور تحفہ بھیجی۔ آپ نے فرمایا، یہ انگوٹھی میں
 سے دوں گا جو مجھے بہت پیارا ہے۔ پھر آپ نے وہ انگوٹھی
 حضرت امامہ رضی اللہ عنہا کی انگلی میں پہنا دی۔

آپ ﷺ کو امامہ سے اسقدر پیار تھا کہ جب وہ آپ کی
 درمیں ہوتیں اور نماز کا وقت آجاتا تو آپ انہیں اپنے مبارک
 نڈھوں پر سوار کر لیا کرتے، جب رکوع میں جاتے تو ننھی امامہ
 آہستہ سے اتار دیتے اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو دوبارہ
 نڈھے پر سوار کر لیتے۔ (۳۴)

نبی کریم ﷺ نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ
 رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کیا تھا۔ کچھ عرصہ

بعد ۲ھ میں انکا وصال ہو گیا تو حضور ﷺ بہت غمزدہ ہوئے اور آپکی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انکے اکلوتے بیٹے عبد اللہ رضی اللہ عنہ کا بھی چھوٹی عمر میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد آپ نے اپنی تیسری صاحبزادی حضرت اُمّ کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کے نکاح میں نبی کریم ﷺ کی دو بیٹیاں آئیں اسلیے آپ کو ”ذوالنورین“ کہا جاتا ہے۔

نکاح کے چھ سال بعد حضرت اُمّ کلثوم رضی اللہ عنہا بھی وفات پا گئیں۔ حضور ﷺ نے کفن کے لیے اپنی چادر عطا فرمائی اور خود نماز جنازہ پڑھائی۔ جب انہیں قبر میں اتارا جا رہا تھا تو نبی کریم ﷺ کی مقدس آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ (۳۵)

آقا و مولیٰ ﷺ کی سب سے چھوٹی اور چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ یہ آپ کے وصال ظاہری تک زندہ

نہیں۔ حضور ﷺ کی ان سے محبت کا اندازہ اس حدیث پاک سے
 لگایا جاسکتا ہے کہ ”فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے
 راض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔“ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے،
 ”فاطمہ مجھے سب لوگوں سے زیادہ پیاری ہے۔“ (۳۶)

آپ ﷺ جب سفر پر جاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ
 عنہا سے مل کر جاتے اور جب واپس آتے تو پہلے ان سے ملتے۔ ایک
 روایت میں ہے کہ جب فاطمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتیں
 تو آپ انکے لیے کھڑے ہو جاتے اور انکا ہاتھ پکڑ کر چوم لیتے اور
 نہیں اپنے بیٹھنے کی جگہ بٹھاتے۔ جب آپ انکے پاس تشریف
 لے جاتے تو وہ بھی آپ کے لیے کھڑی ہو جاتیں، آپ کا دست
 مبارک پکڑ کر اسے بوسہ دیتیں اور آپ کو اپنے بیٹھنے کی جگہ
 بٹھاتیں۔ (۳۷)

حضور ﷺ نے آپ کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کر
 دیا تھا۔ آپ کے چھ اولادیں ہوئیں۔ ایک بیٹا محسن رضی اللہ عنہ اور

ایک بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا بچپن ہی میں فوت ہو گئے جبکہ امام حسن، امام حسین، حضرت زینب اور حضرت اُمّ کلثوم (رضی اللہ عنہم) سے آپ کی نسل آگے بڑھی۔ نبی کریم ﷺ ان سب بچوں سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ (۳۸)

بلاشبہ حضور ﷺ ایک مثالی والد ہیں۔ آپ گھر میں کسی بات پر ناگواری کا اظہار نہ فرماتے بلکہ ہمیشہ مسکراتے رہتے۔ اگر کوئی بات طبیعت کے خلاف ہو جاتی تو اسے درگزر فرما دیتے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، ”تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔“ (۳۹)

امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے پیار :

حضور اکرم ﷺ کو اپنے نواسوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما سے بچد محبت تھی۔ آپ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے تو فرماتے، میرے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب

حسن و حسین رضی اللہ عنہما پاس آتے تو آپ انہیں سونگھا کرتے پھر اپنے مبارک سینے سے لگا لیتے۔ (۲۰) آپ کا ارشادِ گرامی ہے، ”یہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں“۔ (۲۱)

ایک بار آقا علیہ السلام حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے مبارک کندھے پر سوار کیے ہوئے تشریف لارہے تھے کہ ایک صحابی نے عرض کی، بیٹا! تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ آپ نے فرمایا، سوار بھی تو بہترین ہے۔ (۲۲)

دوسری روایت میں ہے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے کندھے پر سوار تھے اور آپ کہہ رہے تھے، اے اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما۔ (۲۳)

ایک بار آقا و مولیٰ ﷺ نماز کے دوران سجدے میں گئے تو ننھے حسین رضی اللہ عنہ آپ کی گردن پر سوار ہو گئے۔ آپ نے سجدہ بہت طویل کر دیا یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نیچے اتر آئے۔ نماز کے بعد کسی نے سجدہ طویل کرنے کا سبب پوچھا تو

فرمایا، میرا نختِ جگر حسین رضی اللہ عنہ میری گردن پر سوار ہو گیا تھا، مجھے اچھانہ لگا کہ اسے اپنے سے جدا کروں اس لیے میں نے سجدہ طویل کر دیا۔ (۴۴)

ایک بار امام حسین رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضور ﷺ کا وہاں سے گذر ہوا۔ آپ نے لپک کر امام حسین رضی اللہ عنہ کو پکڑنا چاہا، وہ کھیل کے طور پر ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ حضور ﷺ برابر مسکراتے رہے اور آخر کار امام حسین رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا۔ آپ نے ایک ہاتھ انکی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا انکے سر پر، پھر ان کا بوسہ لیا۔ ایک اور روایت میں ارشادِ نبوی ہے، ”حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو اس سے محبت رکھے گا، اللہ اس سے محبت کرے گا۔“ (۴۵)

ایک دن آپ منبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما گرتے پڑتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ فوراً منبر سے اترے اور انہیں اپنی گود میں اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا

پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ ”تمہارے مال اور
 بچوں کی اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں“۔ میں نے ان بچوں کی
 طرف دیکھا کہ یہ گرتے پڑتے چلے آ رہے ہیں تو میں صبر نہ کر سکا
 میں نے خطبہ روک کر ان دونوں کو اٹھالیا۔ (۴۶)

آقا کریم ﷺ اپنے ان نواسوں سے اتنی محبت فرماتے کہ
 تکلیف سے آپ بے چین ہو جاتے۔ ایک دفعہ آپ نے
 تین کریمین رضی اللہ عنہما کے رونے کی آواز سنی تو آپ جلدی سے
 تشریف لے گئے اور ان کے رونے کا سبب پوچھا۔ حضرت
 رضی اللہ عنہما نے عرض کی، ”یا رسول اللہ ﷺ! انہیں پیاس لگ
 رہی ہے اور اس وقت پانی موجود نہیں۔“

آپ نے پہلے امام حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اور ان کے منہ میں
 اپنی زبان مبارک ڈال دی۔ انہوں نے زبان چوسنا شروع کی
 انکی پیاس جاتی رہی پھر آپ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اور
 ان کے منہ میں اپنی زبان اقدس ڈالی۔ انہوں نے بھی زبان مبارک

چوسنی اور سیر ہو کر چپ ہو گئے۔ (۲۷)

ایک دن حضور ﷺ کی دونوں پردونوں شہزادے جہا
افروز تھے اور آپ دعا فرما رہے تھے، ”اے اللہ! یہ دونوں میرے
بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ میں ان دونوں سے محبت رکھ
ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ اور اس سے بھی محبت رکھ جو ان
دونوں سے محبت رکھے“۔ (۲۸)

ایک روز حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ
عندہ نماز عصر پڑھ کر باہر نکلے تو امام حسن رضی اللہ عنہ کو بچوں کے ساتھ
کھیلتے دیکھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور
فرمایا، ”میرا باپ تم پر قربان! تم آقا کریم ﷺ سے مشابہت
رکھتے ہو اور علی سے مشابہت نہیں رکھتے“۔ یہ سن کر حضرت
علی رضی اللہ عنہ ہنسنے لگے۔ (۲۹)

جب امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا سر
مبارک ایک طشت میں رکھ کر کوفہ کے حاکم ابن زیاد کے پاس لایا

یہ وہ بد بخت سر مبارک کو چھڑی مارتے ہوئے آپ کے حُسن پر
 یذکر نے لگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا،
 ہذا کی قسم! یہ رسول کریم ﷺ کے ساتھ سب سے زیادہ
 بہت رکھنے والے ہیں۔ (۵۰)

ندان کے بچوں سے پیار:

جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضور ﷺ کے واوا
 کے انتقال کے بعد آپ کے چچا حضرت ابوطالب نے آپ کی
 وراثت کی تھی۔ ایک بار مکہ مکرمہ میں بارش نہ ہونے کے باعث
 سخت قحط پڑا۔ حضرت ابوطالب کی مالی حالت پہلے ہی کمزور تھی،
 قحط کے باعث انکی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آپ ﷺ نے
 چچا کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے ان سے انکے بیٹے علی کو مانگ
 لیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر چار یا پانچ سال تھی پھر آقا
 مہولہ ﷺ نے نہایت شفقت و محبت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی
 پرورش اور تربیت فرمائی۔

جب نبی کریم ﷺ نے اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ ایسے میں نو سال کی عمر والے بچے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھرے مجمع میں اونچی آواز سے اعلان کیا، یا رسول اللہ ﷺ! اگرچہ میں کمزور ہوں اور سب سے چھوٹا ہوں لیکن میں دین حق کے راستے میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس طرح بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا اعزاز حضرت علی کو حاصل ہوا۔ (۵۱)

نبی کریم ﷺ اپنے خاندان کے دیگر بچوں سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ جب جنگ موتہ میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو آپ انکے گھر تشریف لے گئے اور انکے بچوں کو پاس بلا کر پیار کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی جدائی کے غم میں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ دیکھا کر بچوں کی والدہ پریشان ہو گئیں اور انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ

ﷺ! جعفر کیسے ہیں؟ فرمایا، وہ شہید ہو گئے۔ یہ سن کر وہ بے اختیار رونے لگیں۔

آپ اپنے گھر تشریف لائے اور فرمایا، جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کے لیے کھانا پکاؤ، آج وہ بہت غمزدہ ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت بچے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رحمتِ عالم، نورِ مجسم، حضورِ اکرم ﷺ اپنے گھر لے گئے اور اپنے ساتھ کھانا کھلایا، تین دن تک ہم وہاں رہے اور حضور ﷺ ہمارے گھر تشریف لا کر ہمارے گھر والوں کو غم اور صدمہ برداشت کرنے کا حوصلہ دیتے رہے۔ (۵۲)

بچوں کے لیے برکت کی دعا:

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا و مولیٰ ﷺ تمام لوگوں سے زیادہ بچوں پر مہربان تھے اور آپ سب سے زیادہ اپنے گھر والوں پر رحم کرنے والے تھے۔ (۵۳)

مدینہ شریف میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کے گھر والوں کی خواہش ہوتی کہ اسے حضور ﷺ کی بارگاہ میں برکت کے لیے لایا جائے۔ آپ ﷺ اس بچے کے کان میں اذان دیتے، کھجور چبا کر تھوڑی سی بچے کے تالو میں لگا دیتے، اسکے لیے برکت کی دعا فرماتے اور اس کا اچھا سا نام تجویز فرماتے۔ (۵۴)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا چھوٹا بھائی پیدا ہوا تو میں اسے لے کر حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسے نہایت محبت سے اپنی گود میں لے لیا پھر مدینہ شریف کی خاص کھجور منگوائی اور اسے اپنے مبارک منہ میں چبا کر نرم کیا۔ جب وہ خوب نرم ہو گئی تو اسے میرے ننھے سے بھائی کے منہ میں رکھ دیا۔ وہ مزے سے کھجور چوسنے لگا۔ آپ نے فرمایا، دیکھو کتنے مزے سے کھجور چوس رہا ہے۔ پھر آقا کریم ﷺ نے بچے کے چہرے پر اپنا برکت والا ہاتھ پھیرا اور اسکا نام عبداللہ رکھا۔ (۵۵)

علماء فرماتے ہیں کہ بچہ کو کھجور یا شہد یا کسی میٹھی چیز سے گھٹی دینا مستحب ہے اور یہ بھی مستحب ہے کہ گھٹی دینے والا نیک صالح ہو خواہ مرد ہو یا عورت۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک شخص وہاں نہ ہو تو گھٹی دلوانے کے لیے بچے کو اسکے پاس لے جانا بھی جائز ہے۔

مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے والے مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا کے بچے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ مسلمانوں نے خوب خوشی منائی۔ آپ اسے لے کر بارگاہِ نبوت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے بچے کو اپنی گود میں لے لیا اور اپنے مبارک منہ میں ایک کھجور چبا کر نرم کی اور بھر بچے کے تالو سے لگادی اور اسکے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ ہم اس بچے کو اسلام کے عظیم مجاہد عبداللہ بن زبیر (رضی اللہ عنہما) کے نام سے جانتے ہیں۔ (۵۶)

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما حضور ﷺ کی دعائے

برکت سے بچپن ہی سے دلیر اور بہادر تھے۔ وہ سات سال کی عمر میں حضور ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کے لیے حاضر ہوئے، انکے ساتھ دو بچے اور بھی تھے۔ وہ بچے آگے بڑھنے سے جھجک رہے تھے مگر آپ بغیر کسی جھجک کے بیعت کے لیے آگے بڑھ آئے۔ آقا و مولیٰ ﷺ مسکرا نے لگے اور فرمایا، جیسا اس کا باپ نڈر اور دلیر ہے ویسا ہی یہ بھی ہے۔

انہی کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار چند بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گذر ہوا انہیں دیکھ کر دوسرے بچے بھاگے اور ادھر ادھر چھپ گئے مگر یہ اطمینان سے اپنی جگہ کھڑے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم کیوں نہیں بھاگے؟ آپ نے ادب سے عرض کی، میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا کہ بھاگ جاتا، اور یہ راستہ اتنا تنگ بھی نہیں ہے کہ آپ کے گزرنے کے لیے مجھے جگہ چھوڑنی پڑے۔ آپ کی اس حق گوئی اور پیاباکی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش

ہوئے۔

بچوں کے نام اور عقیقہ :

نبی کریم ﷺ بچوں کے اچھے نام تجویز فرماتے تھے۔ آپ کا فرمانِ عالی شان ہے، باپ پر اولاد کا یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اسے اچھے آداب سکھائے۔ (۵۷) چنانچہ بچوں کے نام ایسے رکھنے چاہئیں جن کے معنی اچھے ہوں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا و مولیٰ ﷺ نے نام کو اچھے نام سے بدل دیتے تھے۔ آپ ﷺ نے ایک بچی کا نام عاصیہ سے بدل کر جمیلہ رکھا اور اسی طرح برہ کا نام بدل کر بریرہ رکھا۔ (۵۸)

بچوں میں سب سے افضل نام محمد یا احمد ہیں اور انہیں نام میں شامل کرنا برکت و رحمت کا باعث ہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ ارشاد ہے، میرے نام پر نام رکھو۔ (۵۹)

آپ ﷺ کا ارشادِ گرامی ہے، جس کے پیتا پیدا ہو اور وہ

میری محبت میں اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اسکا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے۔ (۶۰)

ایک اور حدیث شریف میں ہے، جس کے تین بیٹے ہوں اور وہ ان میں سے کسی کا نام بھی محمد نہ رکھے تو وہ ضرور (ایمان و عشق کے تقاضوں سے) جاہل ہے۔ (۶۱)

ناموں میں محمد، احمد، عبداللہ، عبدالرحمن، انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے ناموں کے علاوہ وہ نام رکھے جا سکتے ہیں جو اچھے معانی پر مبنی ہوں۔

اسلامی نام رکھنے کے بعد پیدائش کے ساتویں دن بچے کا عقیدہ کر دینا چاہیے۔

آقا و مولیٰ ﷺ نے فرمایا، ہر بچہ اپنے عقیدے کے سلسلے میں گروی ہے، ساتویں دن اسکی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، اسکا نام رکھا جائے اور سر کے بال مونڈے جائیں۔ (۶۲)

سنت یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو اور لڑکی کی طرف سے ایک بکریا بکری ذبح کیے جائیں اور انکا گوشت خود بھی کھایا جائے اور صدقہ بھی کیا جائے۔ (۶۳)

بچوں کے حقوق :

سرکارِ دو عالم ﷺ نعمتیں عطا فرمانے میں بچوں سے محبت کے باعث انکے حقوق کا خاص خیال فرماتے۔ آپ ﷺ کی خدمت میں جب بھی موسم کا نیا پھل پیش کیا جاتا تو آپ اس پھل کو آنکھوں اور ہونٹوں سے لگاتے اور یہ دعا فرماتے، ”اے اللہ! ہمیں یہ شروع سے آخر تک نصیب فرما“۔ پھر جو چھوٹے بچے وہاں موجود ہوتے انہیں وہ پھل عطا فرمادیتے۔ (۶۳)

نبی کریم ﷺ کی خدمت میں جب کوئی کھانے پینے کی چیز پیش کی جاتی تو آپ اس میں سے تھوڑا سا لیکر باقی اس شخص کو عطا فرماتے جو آپ کے دائیں طرف بیٹھا ہوتا۔ ایک بار آقا مولا ﷺ کے دائیں جانب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما

بیٹھے ہوئے تھے جو کہ کم عمر تھے جبکہ بائیں جانب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے۔ اس وقت دودھ پیش کیا گیا۔ آپ نے کچھ دودھ پینے کے بعد عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا، اگر تم اجازت دو تو میں اسے انہیں پہلے دوں جو عمر میں تم سے بڑے ہیں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم! میں آپ کے مبارک منہ سے لگی ہوئی باقی چیز کسی کو بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ ﷺ نے وہ انہی کو عطا فرمادیا۔ (۶۵)

اس حدیث پاک سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ نے کم عمر ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حق کا خیال رکھا وہیں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ بچے اور بڑے سب نبی کریم ﷺ سے بیحد محبت رکھتے تھے اور آقا ﷺ کے مبارک منہ سے لگی ہوئی چیز کو متبرک سمجھتے تھے۔

اسلام کے ابتدائی دور میں عورتیں بھی مسجدوں میں

ہاں صف میں جماعت سے نماز پڑھتی تھیں۔ بعض عورتیں
 بچے بھی ساتھ لے آتیں جو کبھی کبھار روئے لگ جاتے۔
 سے پیار کرنے والے رحیم و کریم آقا ﷺ نے فرمایا، جب
 نماز شروع کرتا ہوں، تو ارادہ ہوتا ہے کہ اس نماز میں زیادہ
 ت کروں گا لیکن جب کسی صف میں سے بچے کے رونے کی
 تی ہے تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ بچے کے رونے کی
 سے اس کی ماں کو بھی پریشانی ہوتی ہوگی۔ (۶۶)

شفقت و مہربانی ہر بچے کا حق ہے۔ آقا و مولیٰ ﷺ کا
 گرامی ہے، ”وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں
 بانی نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور نیک
 کا حکم نہ دے اور بری باتوں سے نہ روکے“۔ (۶۷)

اس حدیث پاک میں حضور ﷺ نے جہاں بچوں کے
 بیان فرمائے وہاں یہ بھی واضح فرمادیا کہ بڑوں کی عزت کرنا
 ان پر فرض ہے۔ بڑوں کو چاہیے کہ وہ شفقت و مہربانی کے

ساتھ بچوں کو نیک باتوں کا حکم بھی دیتے رہیں اور برے کاموں سے روکتے بھی رہیں اور بچوں کو چاہیے کہ وہ ایسا کرنے پر نہ تیار ہوں۔ مانیں اور نہ ہی اسے اپنے حقوق کے خلاف جانیں۔ اس حوالے سے مزید گفتگو اگلے صفحات میں آرہی ہے۔

حضور ﷺ کی برکتیں :

صحابیات اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی کہ وہ اپنے بچوں کو آقا و مولیٰ ﷺ کی خدمت اقدس میں جائیں اور حضور ﷺ سے اپنے بچوں کے لیے برکت کی دعا کرائیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا واقعہ اوپر بیان کیا چکا ہے اب چند واقعات مزید ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت زہرہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ایک بار انہیں حضور ﷺ کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ ﷺ! میرے بیٹے کو بیعت کر لیجیے۔ چونکہ اس وقت حضرت زہرہ رضی اللہ عنہا بہت کم عمر تھے اس لیے نبی کریم ﷺ نے ان کے سر پر دست

شفقت پھیرا اور برکت کی دعا دی۔ آپ کی اس دعا کے باعث حضرت زہرہ رضی اللہ عنہ سے جب حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر (رضی اللہ عنہم) جیسے بزرگ صحابہ ملتے تو کہتے، اے زہرہ! ہمیں بھی اس برکت میں شریک کر لو کیونکہ تمہیں حضور ﷺ نے برکت کی دعا دی ہے۔ (۶۸)

حضور ﷺ کی ایک زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں جن کے پہلے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے ایک چھوٹی بچی بھی تھی جس کا نام آقا کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے زینب رکھا تھا۔ آپ ننھی زینب سے بہت پیار فرماتے، اکثر خوش طبعی کے طور پر انکے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتے جس سے وہ بہت خوش ہوتیں اور اس طرح حضور ﷺ سے کھیلتیں۔ جب وہ بوڑھی ہو گئیں تب بھی آقا ﷺ کے رحمت والے ہاتھوں کی برکت سے انکے چہرے پر جوانی کی طرح رونق رہی اور بڑھاپے کے آثار ظاہر نہ ہوئے۔ (۶۹)

حضرت محمود بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ پانچ سال کے تھے

کہ آقا و مولیٰ ﷺ انکے گھر تشریف لے گئے۔ انکے گھر ایک کنواں تھا، آپ ﷺ نے اس سے پانی پیا اور خوشِ طبعی کے طور پر پانی کی ایک گلی محمود رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ماری۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اسکی برکت سے انہیں وہ حافظہ حاصل ہوا کہ اس قصہ کو یاد رکھتے اور بیان فرماتے تھے اسی لیے صحابہ میں شمار ہوئے۔ (۷۰)

فجر کی نماز کے بعد مدینہ شریف کے بچے اور بچیاں حضور ﷺ کی خدمت میں پانی کے برتن لاتے۔ آپ ﷺ ان میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالتے تاکہ ان بچوں اور انکے گھر والوں کو برکت حاصل ہو۔ جب سخت سردی میں وہ ٹھنڈا تخی پانی لاتے تو ابھی آپ سردی کی پرواہ کیے بغیر پانی میں ہاتھ ڈبو دیتے۔ (۷۱)

حضرت امّ سلیم رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا و مولیٰ ﷺ میرے گھر میں آرام فرماتے تھے اور آپ کو پسینہ آرہا تھا۔ میں آپ کا پسینہ جمع کرنے لگی تو حضور ﷺ نے فرمایا، یہ کیا کر رہی ہو؟ میں

نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! ہم اسے اپنے بچوں کو لگائیں گے
 بن امید ہے کہ انہیں آپ کی برکت ملے گی۔ حضور ﷺ نے
 لایا، تم ٹھیک کرتی ہو۔ (۷۲)

حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کے سر کے سامنے والے
 حصے میں بالوں کا ایک گچھا تھا۔ وہ بال اتنے زیادہ لمبے تھے کہ جب
 پیٹ بیٹھ کر وہ بال کھولتے تو زمین تک پہنچ جاتے۔ کوئی پوچھتا کہ
 یہ بال کیوں نہیں کٹواتے؟ تو آپ فرطِ محبت سے فرماتے،
 انہیں ہرگز نہیں کٹواؤں گا کیونکہ جب میں بچہ تھا تو میرے
 سر سے آقا ﷺ انہیں پکڑتے اور پیار سے کھینچتے تھے۔ (۷۳)

ان کے مشکل کشا :

وہ بچے جو لاعلاج بیماریوں میں مبتلا تھے، جب پریشانی اور
 مشکل میں گرفتار لوگ اپنے ایسے بچوں کو لے کر بارگاہِ رسالت
 میں حاضر ہوتے تو رحمتِ عالم ﷺ ایک لمحہ میں انکی مشکل کشائی
 فرماتے اور وہ بچے شفا یاب ہو جاتے۔

آخری حج کے موقع پر ایک خاتون اپنے بچے کے ساتھ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ ﷺ! میرا بچہ گونگا یعنی بولنے سے معذور ہے۔ آقا کریم ﷺ نے پانی منگوا کر ہاتھ مبارک دھوئے اور گلی کی۔ پھر فرمایا، یہ پانی اس بچے کو پیلا دو اور کچھ اس کے اوپر چھڑک دو۔ وہ بچہ تندرست ہو گیا اور بولنے لگا۔ (۷۴)

ایک عورت اپنے دیوانے بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ ﷺ! میرا بچہ دیوانہ ہے اور صبح و شام ہمیں پریشان کیے رکھتا ہے۔ آپ ﷺ نے اس بچے کے سینے پر اپنا دستِ رحمت پھیرا اور دعا فرمائی تو اس بچے نے قے کر دی۔ اس قے میں کالے رنگ کے جانور جیسی کوئی چیز نکل کر بھاگ گئی اور وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ (۷۵)

حضرت محمد بن حاطب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چچن امین چولے پر سے ہنڈیا میرے اوپر گر گئی اور میرا بازو جل گیا۔ میری

رہ مجھے لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں۔ آقا کریم ﷺ نے میرے بازو پر لعابِ دہن مبارک لگایا اور دم کیا تو میں اسی وقت تندرست ہو گیا۔ (۷۶)

ایک عورت اپنے بچے کو لے کر بارگاہِ نبوی میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ ﷺ! میرا بچہ لاعلاج مرض میں مبتلا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں اس لیے آپ دعا کر دیں کہ اللہ سے موت دیدے۔ یہ سن کر حبیبِ کبریا ﷺ نے فرمایا، میں تمہارے بچے کے لیے موت نہیں بلکہ صحت مانگتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ نے اللہ! یہ بچہ جوان ہو کر مردِ مومن بنے اور راہِ خدا میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور وہ بچہ جوان ہوا اور جہاد کرتا ہوا شہید ہو کر جنتی بن گیا۔ (۷۷)

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حج کے سفر میں تھے کہ ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یولی، یا رسول اللہ ﷺ! میرا بچہ جب سے پیدا

ہوا ہے، بیمار ہے۔ آقا کریم ﷺ نے بچہ کے منہ میں اپنا لعاب
دہن مبارک ڈالا اور فرمایا، اے دشمنِ خدا! اس میں سے نکل
کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ یہ فرما کر آپ نے اسکی ماں
سے فرمایا، لے جا، اب اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم حج کے بعد
اس مقام پر پہنچے تو وہ عورت بچے کی صحت کی خوشی میں بیٹھی
ہوئی بکری لے کر حاضر ہو گئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا، بکری کی ایک
دستی (بازو) مجھے دے۔ اس نے دیدی۔ پھر آپ نے فرمایا، اور
دستی دے۔ اس نے دوسرا بازو بھی پیش کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا،
اور بازو دے۔ اس عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! بکری
کے دو ہی بازو ہوتے ہیں۔

احمد مختار ﷺ نے فرمایا، اے عورت! اگر تو چپ رہتی اور یہ نہ
کہتی کہ دو ہی بازو ہوتے ہیں تو جب تک میں کہتا رہتا تو مجھے بازو
پکڑا تی رہتی۔ (۷۸)

بچوں کے لیے دمِ تعویذ :

جب اچھی یا خوبصورت چیز دیکھنے پر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے تو بسا اوقات شیطان اس نظر کو اچک لیتا ہے اور یوں بطنانی اثر کے باعث وہ نظر نقصان پہنچاتی ہے۔ جب کوئی چیز بھی لگے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اکثر بچوں کو نظر لگ جاتی ہے۔ نظر کا لگ جانا احادیث سے ثابت ہے۔ رحمتِ عالم ﷺ نے

برید سے بچاؤ اور علاج کے لیے دمِ یا تعویذ کی اجازت دی ہے۔

نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں ایک لڑکی لائی گئی جس کی نگت زرد ہو رہی تھی۔ آپ نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، اسے دمِ

راؤ، اسے نظر لگ گئی ہے۔ (۷۹)

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کی،

رسول اللہ ﷺ! جعفر رضی اللہ عنہ کے بچوں کو بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے، کیا میں انہیں دم کر لیا کروں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، تم

انہیں دم کر لیا کرو۔ (۸۰)

صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! ہم دو جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، آپ کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، دم کرنے کے الفاظ مجھے سنا دو۔ اس دم میں کوئی مضائقہ نہیں جس میں شرکیہ الفاظ نہ ہوں۔ (۸۱) -

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم ﷺ نے نظرِ بد سے بچنے کے لیے دمِ تعویذ کرانے کا حکم دیا ہے۔ (۸۲)

آقا مولیٰ ﷺ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو دم کیا کرتے تھے۔ (۸۳)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بعض دعائیہ کلمات سمجھدار بچوں کو یاد کرا دیتے اور چھوٹے بچوں کے گلے میں ازکا تعویذ لکھ کر حفاظت کے لیے ڈال دیا کرتے تھے۔ (۸۴)

(حضور ﷺ کے دم کے الفاظ اور یہ دعا فقیر کی کتاب "مسنون دعائیں" کے صفحہ ۶۹ اور صفحہ ۵۳ پر ملاحظہ فرمائیں)

صحابہ کرام نظرِ بد سے شفا حاصل کرنے کے لیے

ان والے آقا ﷺ کے تبرکات کا وسیلہ اختیار کرتے۔ ایک
 نبی فرماتے ہیں کہ جب کسی کو نظر لگ جاتی یا کوئی اور تکلیف
 آئے تو لوگ حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا کی طرف ایک پانی کا پیالہ
 لے کر جاتے۔ وہ آقا کریم ﷺ کے موئے مبارک نکالتیں جو
 ان نے ایک چاندی کی ڈبیا میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ انہیں
 پانی میں ہلاتیں اور پھر وہ پانی اس مریض کو پلا دیا جاتا۔ (۸۵)

حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہا کے پاس نبی
 کریم ﷺ کا جبہ مبارک تھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس جبہ مبارک کو
 اور مولیٰ ﷺ پہنا کرتے تھے، اب ہم اسے بیماروں کے لیے پانی
 میں ڈبو دیتے ہیں اور اسکے پانی سے شفا حاصل کرتے ہیں۔ (۸۶)

ان سے محبت کی تعلیم :

سرکارِ دو عالم ﷺ خود بھی بچوں سے بیحد پیار کرتے اور
 سروں کو بھی بچوں سے پیار کرنا سکھاتے۔ عرب کے بدو لوگ
 بہت مزاج ہوتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان جتنا زیادہ سخت

دل ہوگا اتنا زیادہ لوگ اس سے مرعوب ہونگے اور اسکی عزت کریں گے اسی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو پیار بھی نہیں کرتے تھے۔

ایک بار حضور ﷺ اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے

منہ چوم رہے تھے کہ وہاں موجود اقرع بن حابس تمیمی نے حیران

ہو کر کہا، یا رسول اللہ ﷺ! میرے دس بیٹے ہیں مگر میں نے کبھی

کسی کو پیار نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر اللہ

بھی رحم نہیں فرماتا۔ (۸۷)

دوسری حدیث میں ہے کہ ایک بدو نے عرض کی، آپ

بچوں کا منہ چومتے ہیں مگر ہم تو کبھی نہیں چومتے۔ آپ ﷺ نے

فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے شفقت و رحمت نکال دے تو

میں کیا کر سکتا ہوں۔ (۸۸)

حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کی ایک پیاری سی بچی اُمّ

خالد رضی اللہ عنہا سے حضور ﷺ بہت پیار کرتے تھے۔ ایک بار کسی

نے بارگاہ رسالت میں ایک خوبصورت پھول دار چادر تحفہ میں

میں کی آپ نے حاضرین سے فرمایا، بتاؤ یہ چادر کسے عطا کروں؟
 آپ خاموش رہے۔ مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی مرضی سے جسے
 عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اُمّ خالد کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ
 ہرمت میں حاضر ہوئیں تو آقا و مولیٰ ﷺ نے وہ چادر انہیں تحفہ
 کی دی اور دوبار فرمایا، اسے پہن کر پرانی کرو۔ اس دعا کا مطلب
 ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر زیادہ کرے۔ پھر آپ نے چادر پر
 نقش و نگار پر ہاتھ مبارک رکھ کر فرمایا، یہ دیکھو! کتنے
 بصورت پھول ہیں۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئیں۔ (۸۹)

ایک اور موقع پر اُمّ خالد رضی اللہ عنہا اپنے والد کے ساتھ
 گاہِ نبوی میں حاضر ہوئیں تو زرد کرتا پہنے ہوئے تھیں۔ حضور
 ﷺ نے انہیں دیکھ کر مسکراتے ہوئے فرمایا، ”سنہ سنہ“۔ (یعنی
 بہت خوبصورت بہت خوبصورت) حبشی زبان میں حسنہ کو سنہ
 کہتے ہیں، چونکہ اُمّ خالد کی پیدائش حبشہ میں ہوئی تھی اس لیے آپ
 نے اسی مناسبت سے حسنہ کو حبشی تلفظ میں سنہ کہا۔ اُمّ خالد رضی

اللہ عنایہ سن کر بہت خوش ہوئیں۔ پھر وہ مہرِ نبوت سے کھیلنے لگیں تو انکے والد نے انہیں جھڑک دیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اسے کھیلنے دو۔ (۹۰)

ایک مرتبہ بارگاہِ نبوی میں طائف سے انگور آئے۔ اسوقت حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بیٹے نعمان رضی اللہ عنہ بھی خدمتِ اقدس میں حاضر تھے۔ آقا مولیٰ ﷺ نے انگوروں کے خوشے انہیں عطا کیے اور فرمایا، ایک تمہارا ہے اور ایک تمہاری والدہ کا۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے راستے میں اپنا خوشہ کھا لیا۔ انگور بہت مزیدار تھے انہوں نے دوسرا خوشہ بھی کھا لیا۔ سزا کے خوف سے والدہ سے اسکا ذکر تک نہ کیا۔

چند دن بعد جب یہ بارگاہِ نبوی میں حاضر ہوئے تو حضور ﷺ نے دریافت کیا، نعمان! کیا تم نے وہ انگور اپنی والدہ کو دے دیئے تھے؟ عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! نہیں دیئے۔ آپ نے فرمایا، پھر وہ انگور کہاں گئے؟ انہوں نے عرض کی، وہ میں نے کھا

لیے۔ آقا کریم ﷺ ان سے ناراض نہ ہوئے بلکہ آپ نے
 ٹکراتے ہوئے نعمان کے کان پکڑے اور پیار بھرے لہجے میں
 آیا، اے دھوکے باز۔ (۹۱)

بچوں کو سواری پر ساتھ بٹھانا :

رسول کریم ﷺ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو
 دوسرے لوگوں کے ساتھ بچے بھی آپ کے استقبال کے لیے
 نکلتے اور دوڑ کر پہلے آپ کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتے۔ جو بچے
 آپ کے پاس پہنچ جاتے آپ ان میں سے کسی کو سواری پر اپنے
 گے بٹھا لیتے اور کسی کو پیچھے۔

حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک
 مرتبہ آقائے دو جہاں ﷺ کسی سفر سے واپس تشریف لائے تو
 استقبال کرنے والوں میں، میں بھی تھا۔ آپ ﷺ نے مجھے اپنے
 گے سوار کر لیا پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے آئے
 آپ نے انہیں سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ اس طرح ہم تینوں ایک

سواری پر مدینہ شریف میں داخل ہوئے۔ (۹۲)

یہی کم سن عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما ایک دن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ نبی کریم ﷺ کا وہاں سے گذر ہوا۔ آپ

نے عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر اپنی سواری پر بٹھالیا۔ (۹۳)

فتح مکہ کے موقع پر آقا و مولیٰ ﷺ نے فضل بن عباس

رضی اللہ عنہما کو سواری پر اپنے آگے اور قثم بن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنے

پیچھے بٹھالیا۔ (۹۴)

آخری حج کے موقع پر حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما

اونٹنی پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ (۹۵)

آپ ﷺ کی اس محبت کے باعث بچے بھی اپنے والدین

سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتے تھے۔

بچوں کی آپ ﷺ سے محبت :

جو بچوں سے پیار کرتا ہے بچے بھی اس سے پیار کرتے

ہیں۔ رحمت عالم ﷺ جب کسی بچے کو دیکھتے تو آپ کے چہرہ

سبارک پر محبت اور خوشی کے آثار ظاہر ہو جاتے۔ آپ بچوں کو سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتے، یہ بھی محبت کے اظہار کا ایک چھا طریقہ ہے اور اس سے محبت مزید پختہ ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ آپ ﷺ بچوں کو قطار میں کھڑا کر کے خود کچھ دور بیٹھ جاتے اور بچوں سے فرماتے، اب سب دوڑ کر آؤ، دیکھیں کون پہلے ہمیں چھوتا ہے۔ بچے پوری قوت سے تیز دوڑ کر آتے تو قریب پہنچ کر رک نہ پاتے اور کوئی آپ کے مبارک سینے پر گرتا تو کوئی آپ کے پیٹ مبارک پر۔ آپ ﷺ ان بچوں کو سینہ مبارک سے لگا کر پیار کرتے۔

جب حضور ﷺ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو شہر کے سب لوگ آپ کے استقبال کے لیے گھروں سے نکل آئے۔ کورتیں اور بوڑھے لوگ گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے جبکہ بچے رجوآن گلیوں میں پھیل گئے اور وہ سب یا محمد یا رسول اللہ ﷺ کے نعرے لگا رہے تھے۔ (۹۶)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا و مولیٰ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب لوگ بہت خوش تھے اور خوشی میں جہشی بچے اپنے نیزوں سے کھیلتے تھے یعنی نیزوں کرتب دکھاتے تھے۔ (۹۷)

جب آپ بنو نجار کے محلے میں پہنچے تو چھوٹی بچیاں دوڑ بجا کر خوشی سے یہ گانے لگیں، ”ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں حضرت محمد ﷺ بہت اچھے ہمسائے ہیں“۔ حضور ﷺ نے ان کے ر کے اور فرمایا، کیا تم مجھ سے محبت رکھتی ہو؟ بچیوں نے کہا ”ہاں یا رسول اللہ ﷺ!“ آقا کریم ﷺ نے فرمایا، ”میں بھی سے محبت کرتا ہوں“۔ (۹۸)

جمالِ مصطفیٰ ﷺ کا بیان :

آقا و مولیٰ ﷺ کی عظمت و ہیبت اور وقار و جلال کے باعث صحابہ کرام آپ کو نظر بھر کر دیکھ نہ پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ کا حلیہ مبارک وہی صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں

اس وقت بچے تھے یا اعلانِ نبوت سے قبل حضور ﷺ کے زہرِ نبوت تھے جیسے حضرت ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ معلوم ہوا کہ حضور ﷺ بچوں سے ایسی محبت فرماتے کہ بچے بھر کر جمالِ مصطفیٰ ﷺ کا دیدار کرتے۔

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”میں اپنے نانا نبی کریم ﷺ کے وصال کے وقت بہت چھوٹا تھا اس لیے میں نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ عنہ سے حضور ﷺ کے حلیہ مبارک کے متعلق پوچھا۔ میری خواہش یہ تھی کہ وہ آقا ﷺ کے اوصاف بیان فرمائیں تاکہ میں انکے بیان کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لوں۔“ (۹۵)

اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور ﷺ کے معمولات سے متعلق دریافت کیا تھا۔ آقائے دو جہاں ﷺ کی صورت و سیرت کا حسن و جمال دیکھنے کے لیے فقیر کی کتاب ”جمالِ مصطفیٰ ﷺ“ کا

مطالعہ فرمائیں۔

جلیل القدر صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کے
 عمر پوتے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما ایک دن بزرگ صحابیہ حضرت
 رابع بنت معوذہ رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی
 مجھے آقا و مولیٰ ﷺ کے حسن و جمال کے بارے میں بتائیں
 انہوں نے فرمایا، اے بیٹے! اگر تو جان کائنات ﷺ کا دیدار کرتا
 یہ محسوس کرتا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے۔ (۱۰۰)

در حقیقت محبت رسول ﷺ ہی وہ جذبہ ہے جس کی بنا پر
 شمع رسالت کے پروانوں کو اپنے آقا و مولیٰ ﷺ کے فضائل و
 کمالات کا ذکر کرنا اور سننا پسند تھا۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں
 چھوٹا تھا تو ایک بار میں نے آقا کریم ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی پھر
 آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اتنے میں اور پیچھے بھی آگئے، آپ
 ﷺ نے سب بچوں کو پیار کیا اور پھر پیار سے میرے سر اور

بہترے پر اپنا دستِ رحمت پھیر دیا۔ اس وقت مجھے آپ کے دستِ رحمت سے ایسی عمدہ خوشبو کا جھونکا آیا جیسے کسی عطر پیچنے والے

نے عطر کا صندوق کھول دیا ہو۔ (۱۰۱)

حضورِ اکرم نورِ مجسم ﷺ کے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہترین خوشبوئیں سونگھیں ہیں لیکن میں نے کوئی خوشبو آپ کے جسمِ اقدس کی خوشبو سے اچھی نہیں پائی۔ اگر کسی بچے کے سر پر آپ ﷺ اپنا مبارک ہاتھ پھیر دیتے تو اسکے بالوں میں ایسی عمدہ خوشبو بس جاتی کہ لوگ اس خوشبو کے باعث پہچان لیتے کہ اس بچے کے سر پر آقا کریم ﷺ نے ہاتھ مبارک پھیرا ہے۔ (۱۰۲)

آخری حج کے خطبہ کے وقت کم عمر صحابی حضرت رافع رضی اللہ عنہ اپنے والد کا ہاتھ چھڑا کر لوگوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے آقا ﷺ تک پہنچ گئے اور اپنا ہاتھ حضور ﷺ کے پاؤں مبارک پر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا، رافع! یہ تم ہو؟ حضرت رافع

رضی اللہ عنہ کہتے تھے، آقا ﷺ کے پاؤں میں ایسی خوشگوار ٹھنڈک تھی جو مجھے اب تک محسوس ہوتی ہے۔ (۱۰۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ پیکرِ حسن و جمال، حبیبِ کبریٰ ﷺ کی تعریف یوں فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ سے ہاتھ ملایا تو میں نے آپ کے ہاتھوں میں وہ نرمی پائی جو ریشم کے کپڑے میں بھی نہیں ہوتی۔ (۱۰۴)

سب سے کم سن امام :

یہ بات آپ کے لیے یقیناً حیرانی کا باعث ہوگی کہ کوئی بچہ صرف چھ سال کی عمر میں امام بنا ہو اور لوگوں کو نمازیں پڑھاتا رہتا ہو۔ اس کم سن امام کا نام عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا گاؤں دریا کے کنارے ایسی جگہ تھا جہاں سے تمام قافلے گزرتے تھے۔ جب کوئی قافلہ مدینہ منورہ سے آتا تو میں ان لوگوں سے نبی کریم ﷺ کے متعلق باتیں معلوم کیا کرتا اور ان سے سن کر قرآن کی سورتیں یاد کرتا رہتا۔

سوقت تک ہمارا قبیلہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو ہمارا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا۔ حضور ﷺ نے تاکید فرمائی کہ نماز کی پابندی ضروری ہے اور نماز کی امامت وہ کرے جس کو قرآن زیادہ یاد ہو۔

چونکہ کسی اور کو قرآن کی سورتیں یاد نہ تھیں اور مجھے سب سے زیادہ قرآن یاد تھا اس لیے مجھے امام بنایا گیا، اسوقت میری عمر صرف چھ سال تھی۔ میرے پاس مناسب کپڑے بھی نہیں تھے اس لیے لوگوں نے کپڑا خرید کر میرے لیے کرنا بنایا۔ اس کرتے کے ملنے سے مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی جو کبھی نہ ہوئی تھی۔ (۱۰۵) (دفعہ ہو کہ یہ معاملہ صرف حضرت عمر بن سلمہ کے ساتھ خاص ہے اب اتنی عمر کے بچے کی امامت جائز نہ ہوگی)

یتیم بچوں سے محبت :

سرکارِ دو عالم ﷺ یتیموں اور یتیموں کی دستگیری فرماتے تھے۔ آپ نے جلیل القدر صحابی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی بچیوں کی نہایت شفقت و محبت سے

پرورش فرمائی۔ آپ نے ان پھیوں کو سونے کی خوبصورت بالیاں پہنائیں جن میں قیمتی موتی پڑے ہوئے تھے۔ (۱۰۶)

غزوہ احد میں رسول کریم ﷺ کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور کئی مسلمان شہید ہو گئے تھے، ان شہداء میں حضرت حقرہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ ان کا لڑکا جس کا نام بشر رضی اللہ عنہ تھا، مدینہ منورہ کی ایک گلی میں اپنے والد کی جدائی میں سخت ادا اس کھڑا تھا اور اسکی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ ایسے میں وہاں سے رسول کریم ﷺ کا گذر ہوا۔ آپ کی نگاہ کرم اس پر پڑی تو اس سے شفقت و محبت سے دریافت فرمایا، تمہارے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ اس نے عرض کی، میرے آقا! میری والدہ بھی دنیا میں نہیں ہیں اور میرے والد بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے ہیں، میرا اب اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں۔

یہ سن کر پیہوں کے والی اور بے سہاروں کے مددگار، رحیم و کریم آقا و مولیٰ ﷺ نے اسے اپنے مبارک سینے سے لگا لیا۔

اچھے سر پر رحمت بھرا ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، ”میرے
 باپ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ میں تمہارا باپ ہو جاؤں اور
 تمہارا بیٹا بن لوں؟“ یعنی ہم دونوں تمہیں
 باپ کا پیار دیں گے اور محبت و شفقت سے تمہاری پرورش
 کریں گے۔ یہ سن کر ادا اس اور غمزدہ بشر کے دل کو سکون و قرار آ
 گیا۔ (۱۰۷)

آپ نے مسلمانوں کو یہی تعلیم دی کہ بیواؤں اور یتیموں
 کا خیال رکھا کریں۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، ”میں اور یتیم
 کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہونگے جیسے دو
 لڑکیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں“۔ (۱۰۸)

ایک شخص نے بارگاہِ نبوی میں عرض کی، میرا دل سخت
 ہے۔ آپ نے فرمایا، ”یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو
 دانا کھلایا کرو“۔ (۱۰۹)

آپ کے پیارے صحابہ کرام بھی شفقت و محبت سے یتیم

بچوں کی پرورش کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک یتیم بچی جمیلہ رضی اللہ عنہا کی پرورش اپنے ذمہ لی جس کے والد حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔

ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لپٹے ہوئے تھے اور ننھی جمیلہ کو سینے پر بٹھا کر نہایت محبت سے بار بار چوم رہے تھے کہ ایک صحابی ملنے آگئے۔ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، یہ بچی کون سے آپ نے فرمایا، یہ اس بہادر کی بچی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مقام عطا فرمایا، اور اس نے اپنی جان آقا و مولیٰ ﷺ پر قربان کر دی۔ (۱۱۰)

حضور ﷺ کی غلاموں سے محبت :

رحمت عالم ﷺ سے پہلے جہالت اور ظلم کا دور دورہ تھا۔ بازاروں میں جانوروں کی طرح انسانوں کی بھی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ ظالم لوگ عورتیں اور بچے اغوا کر کے بیچ دیتے اور پھر

اگر وہ تمہارے ساتھ جانے پر راضی ہو تو اسے لے جاؤ لیکن اگر جانے پر راضی نہ ہو تو میں اسے تمہارے ساتھ جانے پر مجبور نہیں کروں گا۔ اس بات سے حارثہ بہت خوش ہوا کہ بغیر قیمتے ادا کیے بیٹا واپس مل جائے گا۔ آخر پیٹا غلامی سے نجات پا کر باپ کے ساتھ جانے پر کیوں راضی نہ ہو گا۔ حضور ﷺ نے زید رضی اللہ عنہ کو بلا کر دریافت فرمایا، زید! ان دونوں کو پہچانتے ہو؟ عرض کی، ہاں میرے آقا! یہ میرے والد اور چچا ہیں۔ آپ نے فرمایا زید! اگر تم انکے ساتھ جانا چاہو تو تم آزاد ہو، اور اگر میرے پاس رہنا چاہو تو تمہاری مرضی، میری طرف سے تمہیں اختیار ہے۔

حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اپنے والد اور چچا کو ایک نظر دیکھا پھر آپ ﷺ کی طرف منہ کر کے عرض کی، ”یا رسول اللہ ﷺ! میرے آقا! میں آپ کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گا، خدا کے لیے آپ مجھے اپنے قدموں سے دور نہ کریں“ ان کی یہ بات سن کر انکے والد اور چچا حیران رہ گئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ

نے آزاد ہو کر اپنے ماں باپ کے پاس جانے کی بجائے آقا
 ﷺ کی غلامی کو کیوں پسند کیا؟ اس کا سبب صرف یہ تھا کہ
 ﷺ نے انکو کبھی غلام نہیں سمجھا بلکہ ان سے اس قدر زیادہ
 شفقت کا سلوک کیا کہ انکے دل میں مصطفیٰ کریم ﷺ کی
 بیختمہ اور راسخ ہو گئی اور انہوں نے دنیا کے ہر رشتے اور تعلق
 مصطفیٰ پر قربان کر دیا۔

جب زید رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تو آپ انہیں ساتھ لے
 گئے کعبہ تشریف لے گئے اور وہاں یہ اعلان فرمایا، لوگو! گواہ ہو
 آج سے زید رضی اللہ عنہ میرا بیٹا ہے۔ یہ میرا وارث ہے اور میں
 وارث ہوں۔ لوگ یہ سن کر حیران ہو گئے کیونکہ انکے
 ایک غلام تو صرف خدمت کے لیے ہوتے تھے۔ حارثہ اپنے
 حضور ﷺ کی یہ محبت و عنایت دیکھ کر بہت خوش ہوا اور
 یقین ہو گیا کہ جو محبت، عزت اور خوشی زید رضی اللہ عنہ کو یہاں
 مل رہی ہے وہ اسے وطن میں نہیں مل سکتی، چنانچہ وہ خوشی

خوشی اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ اس واقعہ کے بعد لوگ زید رضی اللہ عنہ کو حضرت محمد ﷺ کا بیٹا کہنے لگے۔

آقا و مولیٰ ﷺ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ جنگ موتہ میں انہیں اسلامی لشکر کا سپہ سالار بنا دیا۔ کئی بزرگ صحابہ نے انکی قیادت میں یہ جنگ لڑی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اس جنگ میں نہایت شجاعت و بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انکی شہادت پر نبی کریم ﷺ کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ (۱۱۱)

رحمت عالم ﷺ نے بارہا غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین فرمائی۔

آپ ﷺ کا ارشادِ گرامی ہے، ”اپنے غلام کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو اور اسے وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ جو غلام تمہیں پسند نہ ہو اسے بیچ دو مگر اسے عذاب نہ دو۔“ (۱۱۲)

ت اسامہ رضی اللہ عنہ سے محبت :

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضور اکرم ﷺ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے ساتھ ساتھ اپنی محبت و عنایات میں حضرت اسامہ کو بھی شریک رکھتے تھے۔ جب کوئی کپڑا تحفہ میں آتا تو یارے نواسوں کے ساتھ انہیں بھی پہناتے۔

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم ﷺ نے ایک رات مبارک پر اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو بچھڑا کر یہ دعا فرماتے، ”اے اللہ! میں ان دونوں پر رحم فرما، تو بھی ان پر رحم فرما“۔ (۱۱۳)

ایک بار حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جبکہ وہ بہت چھوٹے بچے کے دروازے پر گز پڑے اور انکی پیشانی سے خون بہنے لگا، حضور ﷺ نے خود اپنے دست مبارک سے ان کا خون صاف کر دیا اور اپنا مبارک تھوک لگا دیا جس کی برکت سے زخم

ٹھیک ہو گیا۔ (۱۱۴)

حضور ﷺ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ آپ خود ازکا منہ اور ناک صاف کرتے، انہی کپڑے پہناتے اور کبھی کبھی فرطِ محبت سے فرماتے، اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو میں اسکو خوب زیور پہناتا اور اسے ایسا سنوار کر رکھتا کہ اسکی خوبصورتی کی دھوم سارے عرب میں مچ جاتی۔

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم ﷺ کے وصال سے قبل انکی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ اپنے ہاتھ مبارک مجھ پر رکھے اور اٹھالیے۔ میں جان گیا کہ ان نے میرے لیے دعا فرمائی ہے۔ (۱۱۵)

ایک موقع پر حضور ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا، ”اس سے محبت رکھو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں“۔ (۱۱۶)

حضور اکرم ﷺ نے دنیا سے پردہ فرمانے سے

یہ کہ اسلامی لشکر کا سپہ سالار مقرر فرمایا تھا۔ حضور ﷺ کی محبت نے باعث اکابر صحابہ کرام بھی انکا خاص خیال رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دورِ خلافت میں جب صحابہ کرام کے وظیفے مقرر کیے تو اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وظیفہ تین ہزار حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا وظیفہ تین ہزار پانچ سو مقرر کیا۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، ابا جان! میں تمام بیوں میں اسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا ہوں اور آپ بھی کسی بیوی میں اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد سے پیچھے نہیں رہے پھر میرا وظیفہ اسامہ سے کم کیوں ہے؟

برالمومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹا! تم ٹھیک کہتے ہو تمہارا وظیفہ اسامہ رضی اللہ عنہ سے اسلیے کم ہے کہ رسول اللہ ﷺ اسامہ کو تم سے زیادہ اور اسامہ کے والد کو تمہارے والد سے زیادہ محبت رکھتے تھے۔ پس میں نے آقا و مولیٰ ﷺ کی محبت کو اپنی محبت پر ترجیح دی ہے۔ (۱۷)

حضور ﷺ کی اپنے خادم سے محبت

آقائے دو جہاں ﷺ کے خاص خادموں میں صحابہ کرام نمایاں مقام رکھتے ہیں۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ بارگاہِ نبوی کے مؤذن بھی ہیں عاشقِ صادق بھی۔ راہِ حق میں بیشمار تکالیف دی گئیں مگر حضور ﷺ دامن نہ چھوڑا۔ جب سے آزاد ہوئے حضور اکرم ﷺ خدمت میں رہے۔ بازار سے سودا سلف لانا، قرض لینا اور کرنا، مہمانوں کے کھانے پینے کا انتظام اور دیگر مالی امور آپ کے ذمہ تھے۔ (۱۱۸)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چھٹے نمبر پر اپنا لائے، آپ حضور ﷺ کے رازدار خادم تھے۔ سفر میں حضور ﷺ کی مسواک اور وضو کا اہتمام آپ کے سپرد تھا۔ جب آقا ﷺ جگہ جلوہ افروز ہوتے تو آپ آقا کریم ﷺ کی نعلین پاک اٹھا کر اپنی بغل میں رکھ لیتے اور جب حضور ﷺ مجلس سے جانا چاہتے

ظلمین پاک پہناتے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے آپ کے جنتی
 رنے کی گواہی دی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ سیرت میں
 حضور ﷺ کے سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔ (۱۱۹)

حضور ﷺ نے فرمایا، قرآن مجید کا علم چار صحابہ سے
 نکھو۔ پھر آپ نے سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا
 نام لیا۔ (۱۲۰) آپ فقہاء صحابہ میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ جلیل
 قدر تابعی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی فقہ حنفی آپ ہی کی
 روایت کردہ احادیث پر مشتمل ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی بارگاہِ نبوی کے خاص خادم
 تھے۔ وضو کا پانی لانا اور گھر کے تمام چھوٹے کام کرنا نیز آقا کریم
 ﷺ کے حکم سے لوگوں کے پاس جانا آپ ہی کی ذمہ داری
 تھی۔ چونکہ آپ بچپن ہی سے حضور ﷺ کی خدمت کرتے رہے
 ہیں لیے ہم ان کا ذکر تفصیل سے کریں گے۔

حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو

لیکر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، ”یا رسول اللہ! یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے آپ کی خدمت کے لیے لایا ہوں، آپ اسے قبول فرمائیں۔“

حضور ﷺ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے سر پر دس دس شفیقت پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی۔ اس وقت ان کی عمر نو یا دس سال تھی۔ آپ دن کا اکثر حصہ بارگاہ نبوی میں حاضر رہتے اور خدمت آقا کریم ﷺ فرماتے وہ انجام دیتے۔

نبی کریم ﷺ کی محبت و رحمت اور حسن سلوک کی حضرت انس رضی اللہ عنہ یوں گواہی دیتے ہیں کہ ”میں نے دس سال آقا و مولیٰ ﷺ کی خدمت میں گزارے مگر نہ تو کبھی آپ مجھ پر ناراض ہوئے اور نہ کبھی مجھے ڈانٹا بلکہ یہ بھی نہ فرمایا کہ یہ کام تو میں نے کیوں کیا یا کیوں نہ کیا۔ اگر کبھی میرے ہاتھ سے نقصان بھی ہو گیا تو آپ نے مجھے برا بھلا نہیں کہا۔“ (۱۲۱)

آپ اپنی ایک شرارت کا ذکر یوں کرتے ہیں کہ ایک

روزِ آقا کریم ﷺ نے مجھے ایک کام سے کہیں بھجا۔ میرے دل میں یہ تھا کہ میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا مگر زبان سے (شرارت کے طور پر) کہہ دیا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ پھر میں باہر نکلا اور بچوں کا کھیل دیکھنے کھڑا ہو گیا۔

اتنے میں نبی کریم ﷺ وہاں تشریف لے آئے اور آپ نے پیچھے سے میرے سر کے بال پکڑ لیے۔ جب میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کو ہنستا ہوا پایا۔ آپ ﷺ نہ تو غصہ ہوئے اور نہ ناراض، بلکہ آپ نے مسکراتے ہوئے پیار سے فرمایا، تم وہاں کیوں نہ گئے جہاں میں نے بھجا تھا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! میں ضرور جاؤں گا، پھر میں وہاں چلا گیا۔ (۱۲۲)

آقا و مولیٰ ﷺ کبھی کبھی خوش طبعی کے طور پر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرماتے، ”اے دوکانوں والے!“۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی ابو عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس بلبل کا بچہ تھا جو مر گیا۔ انہیں اس کا بہت رنج ہوا۔ حضور ﷺ نے اسکی اداسی دور

کرنے کے لیے خوش طبعی کے طور پر فرمایا، یا ابا عمیر ما فعل النعیر؟ یعنی اے ابو عمیر تمہارے ببل کو کیا ہوا؟ یہ بات سن کر ابو عمیر اپنا غم بھول کر بے اختیار ہنس پڑے۔ (۱۲۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کو آقا و مولیٰ ﷺ سے اس قدر زیادہ محبت تھی کہ آپ عمر کے آخری حصے میں جب حضور ﷺ کا ذکر فرماتے تو آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے اور آواز بھرا جاتی۔ ایک مرتبہ جب حضور ﷺ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو فرمایا، حشر کے دن جب آقا ﷺ کی زیارت نصیب ہوگی تو عرض کروں گا، ”میرے آقا! آپ کا ادنیٰ غلام انس حاضر ہے۔“

ایک بار آقا کریم ﷺ نے انکے لیے دعا فرمائی، ”اے اللہ! اسے مال دے اور اسکی عمر میں برکت عطا فرما۔“ اس دعا کی برکت سے آپ یحد مالدار ہونگے، کثیر اولاد ہونگی اور آپ نے طویل عمر پائی۔ صحابہ کرام اپنے آقا و مولیٰ ﷺ کے تبرکات کو

اپنے لیے باعثِ برکت و رحمت سمجھتے تھے۔ جب حضرت انس

رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو یہ وصیت فرمائی،

”جب مجھے دفن کرنے لگو تو میرے ساتھ میرے آقا

کریم ﷺ کے بال مبارک بھی دفن کر دینا تاکہ مجھے قبر میں بھی

انکی برکت نصیب ہو“۔ (۱۲۴)

بچوں کی تعلیم و تربیت :

پچھلے صفحات میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم ﷺ

نے اپنے غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ اور اپنے خادم حضرت انس

رضی اللہ عنہ کی ایسی بہترین تربیت فرمائی کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے

آزاد ہو کر اپنے والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور حضرت

انس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ آقا و مولیٰ ﷺ نے مجھے کبھی ڈانٹنا

نہ مارا، بلکہ پیار و محبت سے مجھے اچھی باتیں سکھائیں۔

حضرات انس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ایک بار آقا کریم

ﷺ نے حکمت بھرے انداز میں مجھے یوں نصیحت فرمائی، ”اے

میرے بیٹے! اگر تم سے ہو سکے تو صبح و شام ایسے رہو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو۔ اے میرے بیٹے! یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ (۱۲۵)

جب کوئی بچہ غلط کام کرتا تو آقا کریم ﷺ اسے نہایت شفقت و محبت سے سمجھاتے اور اسکے حق میں دعا بھی فرماتے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چین میں مدینہ شریف کے باغوں میں جایا کرتا اور کھجور کے درختوں پر پتھر مارا کر کھجوریں گرا کر کھاتا تھا۔ ایک دن باغ کے مالک نے مجھے پکڑ لیا اور حضور ﷺ کی خدمت میں لے گیا۔

آقا مولیٰ ﷺ نے اسکی شکایت سن کر مجھ سے دریافت فرمایا، تم درختوں پر پتھر کیوں مارتے ہو؟ میں نے عرض کی، کھجوریں کھانے کے لیے۔ آپ نے نرمی سے فرمایا، پتھر مت مارا

البتہ جو کھجوریں پک کر بیچے گر جاتی ہیں، انہیں کھا لیا کرو۔
 آپ نے محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے حق
 کی دعا فرمائی، ”اے اللہ! اس کا پیٹ بھر دے“۔ (۱۲۶)

ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو باقاعدگی
 سے حضور ﷺ کی خدمت میں بھیجا کرتی تھیں۔ ایک بار حضرت
 حذیفہ رضی اللہ عنہ چند روز تک خدمت میں حاضر نہ ہوئے۔ انہیں
 کہا گیا تو بہت ناراض ہوئیں اور اپنے بیٹے کو برا بھلا کہا۔ حذیفہ رضی
 اللہ عنہ نے معافی مانگی اور پکا وعدہ کیا کہ اب غیر حاضری نہ ہوگی،
 میں آقا کریم ﷺ کے پیچھے نمازِ مغرب پڑھوں گا اور اپنے اور
 آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ بارگاہِ نبوی میں
 حاضر ہوئے اور نماز پڑھ کر حضور ﷺ کے پیچھے چل پڑے۔

آپ ﷺ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرمایا، ”کون؟ حذیفہ“
 رضی اللہ عنہ، ”جی ہاں یا رسول اللہ ﷺ!“ آقا و مولیٰ ﷺ نے
 فرمایا، ”اللہ تعالیٰ تیری اور تیری ماں کی مغفرت کرے“۔ (۱۲۷)

قابلِ غور بات یہ ہے کہ جو بات حدیفہ نے گھر میں وال
 سے کہی تھی، غیب جاننے والے آقا ﷺ نے اگلے کے بغیر وہ
 فرمادی۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ پوشیدہ
 باتوں کا علم رکھتے تھے۔

سرکارِ دو عالم ﷺ بچوں کی تربیت کا خاص اہتمام فرماتے
 تھے۔ آپ بچوں کو سلام کرنے میں پہل کیا کرتے (۱۲۸) تاکہ
 انہیں سلام میں پہل کرنے کی عادت ہو جائے۔ آپ نے بچوں کو
 تلقین فرمائی کہ وہ بڑوں کو سلام کرنے میں پہل کیا کریں۔ اس کا
 ثواب بھی زیادہ ہے اور سلام میں پہل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے
 زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ (۱۲۹)

آقا و مولیٰ ﷺ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو یوں نصیحت
 فرمائی، ”اے میرے بیٹے! جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جایا
 کرو تو انہیں سلام کیا کرو۔ یہ تمہارے لیے بھی برکت کا باعث ہو
 گا اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی۔“ (۱۳۰)

نبی کریم ﷺ کو جھوٹ سخت ناپسند تھا۔ آپ فرماتے کہ
 بچوں سے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تاکہ وہ بچپن ہی
 سے جھوٹ سے دوزر رہیں۔ کسین عبد اللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے
 ہیں کہ ایک بار میری ماں نے مجھے کہا، یہاں آؤ، تمہیں ایک چیز
 بولانے کی۔ حضور ﷺ پاس موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، اسے کیا چیز
 بولانے کی؟ میری ماں نے عرض کی، اسے کھجور دوں گی۔ حضور ﷺ
 نے فرمایا، اگر تم اسے کچھ نہ دیتیں تو تمہارے ذمہ جھوٹ لکھا
 جاتا۔ (۱۳۱)

آپ دسترخوان پر بچوں کو ساتھ بٹھاتے اور انہیں
 کھانے پینے کے آداب سکھاتے۔ اگر کوئی بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا
 شروع کر دیتا تو آپ نرمی سے فرماتے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ۔
 کسی طرح اگر کوئی بچہ دوسرے کے سامنے سے کھانے لگتا تو آپ
 سے پیار سے فرماتے، بیٹا! کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔
 حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا اور

حضور ﷺ کی نگرانی میں پرورش پاتا تھا۔ ایک دن دسترخوان اپنے آگے سے کھانے کی بجائے میں اپنا ہاتھ دوسرے پیالے طرف بڑھانے لگا تو حضور ﷺ نے فرمایا، بسم اللہ پڑھو اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ (۱۳۲)

آپ ﷺ نے کھانے کے آداب یہ سکھائے کہ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئیں پھر بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھانا کھائیں۔ کھانے کے بعد دعا پڑھ کر ہاتھ دھو لیے جائیں اور انہیں رومال یا تولیے سے خشک کر لیا جائے۔ آپ پینے سے قبل بسم اللہ پڑھتے اور پینے کے بعد الحمد للہ فرماتے اور تین سانس میں پیتے۔ آپ نے کھڑے ہو کر کھانے پینے سے بھی منع فرمایا ہے۔ (۱۳۳)

نبی کریم ﷺ جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوتے بلکہ دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے اور اجازت لے کر اندر جاتے۔ آپ نے اپنے

س کی بھی عملی تربیت فرمائی چنانچہ جب کوئی بغیر اجازت گھر
 اخل ہو جاتا تو آپ ﷺ اسے پیار بھرے لہجے میں فرماتے،
 وہ گھر سے باہر جاؤ، السلام علیکم کہو اور پھر اجازت لیکر اندر

(۱۳۴)

حضور ﷺ ظاہری صفائی کا بھی یچھا اہتمام فرماتے اور
 ہر کوئی بھی اس کی تلقین فرماتے۔ آپ لباس و جسم کی صفائی،
 لٹکے ذریعے منہ اور دانتوں کی صفائی اور اچھے ہوئے بالوں
 رت میں کنگھی کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ آپ کا ارشاد
 ہے، ”صفائی نصف ایمان ہے“۔ (۱۳۵)

ایک اور حدیث پاک میں پاکیزگی اور نماز دونوں کی اہمیت
 بیان فرمائی گئی، ”جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی
 ہے“۔ (۱۳۶)

کی تربیت میں سختی کرنا:

دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور اولاد کو

دین سکھانا والدین کی اولین ذمہ داری ہے۔

ایک بار بہت چھوٹی عمر میں حضرت امام حسن

نے صدقہ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور منہ میں ڈال لی

کریم ﷺ نے دیکھا تو فرمایا، تھوک دو! منہ سے نکال کر

دو۔ پھر فرمایا، بیٹا! ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ (۱۳۷)

اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ والدین پر واجب

ہے کہ وہ اپنی اولاد کو غیر شرعی کاموں سے روکیں۔ (۱۳۸)

آقا و مولیٰ ﷺ بچوں کو خود بھی وضو اور نماز سکھانے

اپنے صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین فرماتے۔

آپ ﷺ کا فرمانِ عالیشان ہے، ”جب بچے سات

کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو اور جب وہ دس

کے ہو جائیں تو ان کے بستر علیحدہ کر دو اور اگر وہ اس عمر میں

سے غفلت کریں تو ان پر سختی کرو“۔ (۱۳۹)

اس سے معلوم ہوا کہ اولاد جب سمجھ دار ہو جائے تو

کی تربیت میں مناسب سختی کرنا ضروری ہے اور یہ بھی اولاد
محبت ہی کا ایک اہم تقاضا ہے کہ انہیں دوزخ کی آگ سے
بچائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ”اے ایمان والو! اپنی جانوں اور
گھر والوں کو آگ سے بچاؤ“۔ (۱۲۰) یعنی اپنے گھر والوں کو
رے کاموں سے بچانا اور دینی احکام پر عمل کروانا ہر مومن
کی ذمہ داری ہے۔

اسی لیے آقا کریم ﷺ نے صحابہ کرام کو یہ نصیحت فرمائی
تم اپنے گھر والوں کی تربیت میں اپنی چھڑی ان سے نہ ہٹانا
مناسب سختی کرتے رہنا“۔ (۱۲۱)

دین سکھانے میں حکمت و دانائی سے کام لینا چاہیے۔
پیار محبت سے کام چلے وہاں سختی مناسب نہیں اور جہاں
ان کی تیزی اضلاع کے لیے کافی ہو وہاں مار پیٹ روا نہیں۔
رسول معظم ﷺ کا ارشاد ہے، تین لوگوں پر اللہ تعالیٰ

نے جنت حرام فرمادی ہے۔ اول : شراب کا عادی،
والدین کا نافرمان اور سوم : وہ بے حیا جو اپنے گھر میں بے حیا
بے غیرتی کے کام ہونے دئے۔ (۱۳۲)

• اس حدیث پاک سے واضح ہے کہ جو لوگ اپنی اول
دینی تربیت سے غافل ہونگے اور بے حیائی کے کاموں سے
اولاد کو نہیں روکیں گے وہ جنت سے محروم کر دیے جائیں
جبکہ انکی اولاد بھی اپنے گناہوں کے باعث عذاب میں مبتلا
گی۔ لہذا اگر والدین کو اپنی اولاد سے سچی محبت ہے تو انہیں چاہئے
کہ وہ اپنی اولاد کو بے حیائی اور بے پردگی سے روکیں اور اپنے
گناہوں کا ماحول اسلامی بنائیں۔

ایک خاتون جب باریک لباس پہن کر آقا کریم ﷺ
خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے چہرہ اقدس پھیر لیا
فرمایا: ”جب لڑکی بالغ ہو جائے تو سوائے چہرے اور ہتھیلیوں
کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے“۔ (۱۳۳)

بچوں کے بالغ ہونے کی ابتدائی عمر نو سال ہے گویا اس عمر سے
بچوں کو بے پردگی سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔

ایک اور حدیث شریف میں ارشادِ نبوی ہے، ”نا محرم کو
دیکھنے والے پر اور جسے دیکھا جائے جبکہ وہ قصداً خود کو دکھائے،
ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہے“۔ (۱۳۴)

بچوں کو مستقبل کا معمار کہا جاتا ہے لہذا ایک مثالی اسلامی
معاشرہ تشکیل دینے کے لیے ضروری ہے کہ بچے دینی تعلیم
حاصل کریں اور پھر اسلامی اصولوں پر عمل کر کے اسلامی
معاشرہ کے قیام میں بھرپور کردار ادا کریں۔

آقا و مولیٰ ﷺ کے زیر تربیت بچوں نے کیا کارہائے
مکمل انجام دیے، اس حوالے سے چند واقعات پیش خدمت
ہیں۔

دو کم عمر مجاہد:

حضور ﷺ بچوں سے بے حد محبت کرتے اور بچے بھی

اپنے آقا و مولیٰ نبی کریم ﷺ سے بہت محبت کرتے تھے۔
حضور ﷺ سے محبت کرتا، وہ بچوں کا محبوب ہو جاتا اور جو حضور
ﷺ کو تکلیف دیتا، بچے اس سے شدید نفرت کرتے۔

اس کی واضح مثال دو مجاہد بچے معاذ بن عمرو رضی اللہ عنہما اور
معوذ بن عفران رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آقا کریم ﷺ
کے دشمن ابو جہل سے شدید نفرت تھی اور ہم نے سنا تھا کہ اسے
قتل کرنا مشکل ہے کیونکہ وہ محافظوں کے درمیان رہتا ہے مگر ہم
نے اس کے قتل کا ارادہ کر لیا۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر
کے میدان میں مجھ سے ان کم عمر مجاہدوں نے پوچھا، چچا جان!
کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں مگر تمہیں اس
سے کیا کام ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ”وہ ہمارے آقا و مولیٰ
ﷺ کی برائی کرتا ہے۔ خدا کی قسم! اگر وہ ہمیں مل جائے تو یا وہ
زندہ رہے گا، یا ہم۔“

اتنے میں ابو جہل گھوڑے پر سوار نظر آیا۔ میں نے
 کہا، وہ ابو جہل ہے۔ وہ دونوں مجاہد بچے بجلی کی طرح اسکی طرف
 لپکے اور تلوار سے اتنے وار کیے کہ ابو جہل زخمی ہو کر نیچے گر
 گیا۔ پھر معوذ رضی اللہ عنہ نے ایسا وار کیا کہ وہ ہلنے جلنے کے قابل نہ
 رہا۔ انہوں نے اسے قتل نہ کیا تا کہ وہ تڑپ تڑپ کر جان دے۔
 آخر کار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسکا سر تن سے جدا کر دیا۔
 کم عمر مجاہد حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ :

جب میں نے ابو جہل پر حملہ کیا تو اسکے بیٹے عکرمہ نے جو
 اسوقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، میرے کندھے پر تلوار کا
 ایسا وار کیا کہ میرا بازو کٹ کر جسم کے ساتھ لٹک گیا مگر میں نے
 اسکی حالت میں جنگ جاری رکھی۔ چونکہ یہ کٹا ہوا بازو تلوار
 چلانے میں رکاوٹ بن رہا تھا اس لیے میں نے اس کو پاؤں کے
 نیچے دبا کر زور سے کھینچا تو وہ بازو جسم سے الگ ہو گیا۔ میں نے
 اسے پھینک دیا اور ایک ہاتھ سے لڑتا رہا۔ (۱۳۵)

بچوں میں جہاد کا شوق :

یہ حقیقت ہے کہ کافر جتنی محبت زندگی سے کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ مومن راہِ حق میں شہادت کو محبوب رکھتے ہیں۔ جب نبی کریم ﷺ جہاد کا اعلان فرماتے تو بڑوں کے ساتھ بچوں کی بھی بڑی تعداد کافروں سے لڑنے کے لیے وہاں بھیج جاتی۔ جب آقا و مولیٰ ﷺ لشکر کا معائنہ فرماتے تو کم عمر بچوں کو واپس بھیج دیتے۔

مسلمانوں کا پہلا معرکہ بدر کے مقام پر ہوا۔ اس لڑائی میں شرکت کا شوق اور شہادت کی تمنائے کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما بارگاہِ نبوی میں پہنچے تو کم عمر ہونے کی وجہ سے آقا کریم ﷺ نے انہیں واپس لوٹا دیا۔ یہ دونوں بہت افسردہ ہوئے کہ ہم جہاد فی سبیل اللہ کی سعادت سے محروم رہ گئے۔ یہ اتنے کم عمر تھے کہ جب ایک سال بعد غزوہ احد کا موقع آیا تو یہ دونوں کسبِ مجاہد پھر شوقِ شہادت لے کر

بارگاہِ نبوی میں حاضر ہوئے لیکن کم عمر ہونے کے باعث انہیں اس بار بھی اجازت نہ ملی۔

غزوہ احد میں انکے علاوہ جن کسب لڑکوں نے اپنے آپ کو جہاد کے لیے بارگاہِ رسالت میں پیش کیا ان میں زید بن ثابت، اسامہ بن زید، ابو سعید خدری، عرابہ بن اوس، زید بن ارقم، عمرو بن حزم، رافع بن خدیج، اسید بن ظہیر اور سمیرہ بن جندب رضی اللہ عنہم زیادہ نمایاں ہیں۔ ان سب صحابہ کرام کی عمریں تیرہ چودہ سال کے لگ بھگ ہونگی۔ رسول کریم ﷺ نے انہیں جہاد میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی اور واپس فرمادیا۔

جب رافع بن خدیج رضی اللہ عنہما کو واپسی کا حکم دیا گیا تو ان کے والد حضرت خدیج رضی اللہ عنہ نے انکی سفارش کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! میرا لڑکا بہت اچھی طرح تیر چلا سکتا ہے اس لیے اسے جہاد میں شرکت کی اجازت دی جائے۔ جب آقا و مولیٰ ﷺ نے رافع رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا تو وہ بچوں

کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ انکا قد اونچا نظر آئے اور انہیں جہاد میں شرکت کی اجازت مل جائے۔ حضور ﷺ نے انہیں اجازت دے دی۔

جب جنگ سے واپس کیے جانے والے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے والد سے کہا، آقا ﷺ نے رافع کو اجازت دیدی ہے تو پھر مجھے بھی ملنی چاہیے۔ کیونکہ میں اس سے طاقتور ہوں۔ اگر ہماری کشتی کرائی جائے تو میں اسے پچھاڑ لوں گا۔ چنانچہ حضور ﷺ نے دونوں کی کشتی کرائی اور سمرہ نے رافع کو گرا دیا۔ اس پر سمرہ رضی اللہ عنہ کو بھی جہاد میں شریک ہونے کی اجازت مل گئی۔ اسی طرح بعض اور لڑکوں نے بھی جہاد میں شرکت کی اجازت حاصل کر لی۔ (۱۳۶)

شوقِ شہادت اور آنسو :

آپ شاید یہ پڑھ کر حیران ہوں گے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک ننھے مجاہد کے جذبہ کی سچائی اور آنسوؤں کی وجہ سے

انہیں جہاد میں شرکت کی اجازت عطا فرمائی جبکہ وہ اتنے چھوٹے تھے کہ ان کے قدم سے تلوار زیادہ بڑی تھی۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بدر کی جنگ کے لیے لشکر تیار کیا جا رہا تھا تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی عمیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ ادھر ادھر چھپتے پھر رہے ہیں۔ مجھے حیرانی ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا، تم اس طرح چھپتے کیوں پھر رہے ہو؟ وہ بولے، بھائی جان! میں ابھی جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی نعمت عطا فرمادے۔ لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر آقا ﷺ نے مجھے دیکھ لیا تو چھوٹا سمجھ کر جہاد میں جانے سے منع فرمادیں گے اس لیے انکی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔

نبی کریم ﷺ نے جب لشکر کا معائنہ فرمایا تو کمسن عمیر کو منع فرمادیا۔ اس پر عمیر رضی اللہ عنہ شدت شوق کے باعث زار و قطار رونے لگے۔ انکے جوش جہاد، شوق شہادت اور آنسو

بہاتے کا حال دیکھ کر آقا کریم ﷺ پر بہت اثر ہوا اور آپ نے انہیں جہاد میں حصہ لینے کی اجازت دیدی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے تھے اور انکی تلوار بڑی تھی اور انہیں صحیح طرح تلوار لٹکانا بھی نہیں آتی تھی۔ انکا جذبہ سچا تھا اس لیے وہ جہاد میں بھی شریک ہوئے اور شہادت کی نعمت بھی پائی۔ (۱۳۷)

اسی طرح ایک غلام کا واقعہ ہے جنہیں کم عمر ہونے کی وجہ سے جہاد میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ملی تو انہوں نے اپنے سرداروں سے سفارش کروائی۔ نبی کریم ﷺ نے جہاد میں شرکت کی اجازت بھی دی اور ایک تلوار بھی عطا فرمائی۔

ان کسب صحابی کا نام بھی عمیر رضی اللہ عنہ تھا۔ چونکہ ان کا قد چھوٹا تھا اور تلوار بڑی، اس لیے انہوں نے تلوار اپنے گلے میں لٹکالی۔ اس کے باوجود جب یہ چلنے لگے تو تلوار زمین پر گھسٹتی جاتی تھی۔ اسی حال میں انہوں نے خیبر کی جنگ میں شرکت کی اور غازی ہوئے۔ (۱۳۸)

سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی بہادری :

مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر نبی کریم ﷺ کے اونٹ چرا کرتے تھے۔ ایک دن کافروں نے حملہ کر کے انکے نگہبان کو شہید کر دیا اور اونٹ لے کر چل دیے۔ اتفاق سے اس وقت حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ تیر کمان لیے ہوئے پیدل اسی سمت جا رہے تھے کہ انکی نظر لٹیروں پر پڑ گئی۔ آپ کی عمر بارہ یا تیرہ سال تھی، تیز دوڑنے میں کوئی آپ کا ثانی نہیں تھا اور آپ بہترین تیر انداز بھی تھے۔

آپ نے فوراً قریبی پہاڑی پر چڑھ کر مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے اس سانحہ کا اعلان کیا اور خود تیر کمان لے کر کافروں کی طرف دوڑنے لگے۔ مشہور تھا کہ ”سلمہ دوڑ کر گھوڑے کو پکڑ سکتے ہیں“۔ کافر سب مسلح اور گھوڑوں پر سوار تھے۔ آپ دوڑ کر انکے قریب پہنچ گئے اور تیر مارنے شروع کیے۔ آپ نے اتنی تیزی سے تیر برسائے کہ وہ یہ سمجھے، کوئی بڑا مجمع

پیچھے آگیا ہے اس لیے وہ مقابلے کے لیے نہیں رہے۔ آپ تیرا
 کر درختوں کے پیچھے ہو جاتے اس طرح وہ بھاگتے رہے اور آپ
 پیچھا کرتے رہے حتیٰ کہ وہ حضور ﷺ کے اونٹ بھی چھوڑ گئے
 ساتھ ہی تمیں نیزے اور اتنی ہی چادریں بھی۔

اتنے میں کافروں کا ایک گروہ انکی مدد کے لیے پہنچ گیا اور
 انہوں نے جان لیا کہ سلمہ رضی اللہ عنہ اکیلے ہیں۔ چنانچہ وہ واپس
 پلٹ آئے اور آپ کا پیچھا کرنے لگے۔ آپ پہاڑ پر چڑھ گئے تو
 بھی پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں
 نے بلند آواز سے کہا، ٹھہرو! پہلے میری بات سنو۔ تم جانتے ہو
 میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا، بتا تو کون ہے؟ میں نے کہا،
 ”میں سلمہ ابن الاکوع ہوں۔ اُس ذاتِ اقدس کی قسم جس نے
 حضرت محمد ﷺ کو عزت دی، تم میں سے اگر کوئی مجھے پکڑنا
 چاہے تو نہیں پکڑ سکتا اور میں تم میں سے جس کو پکڑنا چاہوں وہ
 مجھ سے ہرگز نہیں بچ سکتا۔“

آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی طرح ان کو بات چیت میں الجھائے رکھا تا کہ مدینہ طیبہ سے میری مدد پہنچ جائے۔ یہاں تک کہ کچھ ہی دیر میں مدینہ منورہ کی طرف سے گھڑ سوار آتے دکھائی دیے اور انہوں نے آتے ہی کافروں پر حملہ کر دیا۔ ایک صحابی شہید ہوئے جبکہ کئی کافر مارے گئے۔ (۱۴۹)

اتنی سی عمر میں اس قدر جرات و بہادری کا مظاہرہ بلاشبہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کا بے مثال کارنامہ ہے۔

کم عمر پیرے دار :

غزوہ احد کے موقع پر کافر زبردست تیاری کے ساتھ آئے تھے اور انکے لشکر نے مدینہ شریف کے قریب پہنچ کر پڑاؤ لگایا۔ جنگ سے پہلے والی رات حملے کا بہت خطرہ تھا۔ جب رات ہوئی تو حضور ﷺ نے پچاس مجاہدوں کو لشکر کی حفاظت پر مامور کیا اور پھر فرمایا، آج رات میرے خیمے پر کون پہرا دے گا؟ اندھیرے میں ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا

رسول اللہ ﷺ! میں پہرا دوں گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بولا، زکوان۔ آپ نے فرمایا، تم بیٹھ جاؤ۔ پھر دریافت فرمایا، آج کی رات میرے خیمے کی حفاظت کون کرے گا؟ اس پر ایک صاحب کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ﷺ! میں حاضر ہوں۔ چونکہ اندھیرا تھا اس لیے حضور ﷺ نے نام پوچھا تو جواب ملا، ابو سبع (سبع کا باپ)۔ آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔

پھر تیسری بار آقا و مولیٰ ﷺ نے فرمایا، اس کام کے لیے کون تیار ہے؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے، میں یہ فریضہ انجام دوں گا۔ آپ نے نام دریافت کیا تو آواز آئی، ابن عبدالقیس (عبدالقیس کا بیٹا)۔ آپ نے فرمایا، تم بھی بیٹھ جاؤ۔

پھر حضور ﷺ نے حکم دیا کہ تینوں آدمی آجائیں۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ایک نوجوان سامنے موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہارے دوسرے ساتھی کہاں ہیں؟ اس نے عرض کی، میرے آقا ﷺ! تینوں بار میں ہی اٹھا تھا۔ حضور ﷺ نے اسے دعا

اور پھرے دار مقرر فرمایا۔ یہ کم عمر مجاہد ساری رات آقا
کریم ﷺ کے خیمے کے گرد پہرہ دیتے رہے۔ (۱۵۰)

بداء کے بہادر بیٹے:

نبی کریم ﷺ جب احد کی لڑائی کے بعد مدینہ منورہ پہنچے
تو خبر ملی کہ کافر ایک اور حملہ کا ارادہ کر رہے ہیں۔ مسلمان فوراً
ہو گئے اگرچہ اس وقت بہت تھکے ہوئے تھے۔ آپ نے اعلان
کیا، صرف وہی لوگ ساتھ چلیں جو احد میں ساتھ تھے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں عرض کی،
اے آقا ﷺ! احد کی جنگ میں شرکت کی میری بھی تمنا تھی
میرے والد نے مجھے یہ کہہ کر اجازت نہیں دی کہ تمہاری
جنگ میں ہیں اور یہاں ایک مرد کا ہونا ضروری ہے۔ یا رسول
ﷺ! اب چونکہ وہ غزوہ احد میں شہید ہو چکے ہیں اس لیے
مجھے مجھے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے۔ حضور ﷺ نے

اجازت عطا فرمادی۔ (۱۵۱)

غور فرمائیں کہ باپ ابھی شہید ہوا ہے اور سات بہنوں کی کفالت اب انہی کے ذمہ ہے پھر بھی آقا و مولیٰ ﷺ پر جان نثار کرنے کا جذبہ ہے جو ہر جذبہ پر غالب ہے۔

اسی طرح جنگِ احد میں حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ انکے بیٹے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو بھی کم عمر ہونے کے باعث جہاد میں شرکت کی اجازت نہیں ملی تھی۔ چونکہ انکی کوئی جائیداد نہیں تھی اس لیے انکے بیٹے اور اہلیہ سخت تنگدستی میں مبتلا ہو گئے۔ انکی اہلیہ نے ایک دن اپنے بیٹے سے کہا، تم بارگاہِ نبوی میں جا کر حضور ﷺ سے کچھ مال کا سوال کرو۔

یہ جب حاضر ہوئے تو حضور ﷺ نے انہیں دیکھ کر ارشاد فرمایا، ”جو اللہ تعالیٰ سے صبر مانگتا ہے اسے صبر ملتا ہے اور جو پارسائی مانگتا ہے اسے پارسائی ملتی ہے اور جو غنا چاہتا ہے اسے غنا بنا دیا جاتا ہے۔“

یہ سن کر سخت مالی تنگی اور شدید ضرورت کے باوجود

۱۵ سالہ یتیم ابو سعید رضی اللہ عنہ آقا کریم ﷺ کی خدمت میں اپنی
 یشانی ظاہر کیے بغیر گھر آجاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ پھر اللہ
 الی نے اس صبر کا ابو سعید رضی اللہ عنہ کو یہ انعام دیا کہ انکی تنگی مال
 و ملت کی فراوانی میں بدل گئی اور وہ دنیاے علم و فضل کے
 خشاں ستارے بن گئے۔ (۱۵۲)

نہ ہے عشقِ مصطفیٰ ﷺ :

اس کتاب کا خلاصہ یہی ہے کہ آقا و مولیٰ ﷺ کی محبت
 ان کی روح اور دین کی اصل ہے اور محبت کا اہم ترین تقاضا یہ
 ہے کہ محبوب کریم ﷺ کی اطاعت کی جائے۔

آقا کریم ﷺ کا فرمانِ عالیشان ہے، ”تم میں سے کوئی
 مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اسکے والدین،
 اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں“۔ (۱۵۲)

ایک شخص نے بارگاہِ نبوی میں عرض کی، یا رسول اللہ
 ! قیامت کب آئے گی؟ فرمایا، یہ بتا کہ تو نے قیامت کے

لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کی، میرے آقا! میں نے نہ بہت سی نمازیں جمع کی ہیں اور نہ روزے اور نہ ہی صدقات لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول ﷺ سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ”پھر تو قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت رکھتا ہے“۔ (۱۵۳)

آقا و مولیٰ ﷺ کا ارشادِ گرامی ہے، ”تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں“۔ (۱۵۳)

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیبِ لبیبِ نبی کریم روف و رحیم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کے صدقے و طفیلِ ہم سب کو صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو عشقِ مصطفیٰ ﷺ کی روشنی سے منور فرمائے۔ آمین

﴿صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأَتَمِّ وَآلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلْوَةٌ وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾



حوالہ جات

- (۱) ترمذی (۲) مشکوٰۃ (۳) مشکوٰۃ (۴) مسلم (۵) مدارج النبوة (۶) ابن ماجہ، شہقی
 (۷) جلاء الافہام بحوالہ ابن ماجہ طبرانی (۸) نسائی (۹) ابن ماجہ (۱۰) مدارج النبوة
 (۱۱) زر قانی، خصائص کبریٰ (۱۲) مدارج النبوة (۱۳) بخاری (۱۴) مواہب الدنیہ
 (۱۵) زر قانی (۱۶) طبقات ابن سعد (۱۷) مدارج النبوة (۱۸) مدارج النبوة (۱۹)
 الاصابہ، مدارج النبوة (۲۰) ابو داؤد، ابن ماجہ (۲۱) مشکوٰۃ (۲۲) بخاری (۲۳) مشکوٰۃ
 (۲۴) ابو داؤد (۲۵) مشکوٰۃ (۲۶) مسند دارمی (۲۷) بخاری، مسلم (۲۸) بخاری
 (۲۹) ابو داؤد (۳۰) طبرانی (۳۱) بہار شریعت (۳۲) طبرانی (۳۳) بخاری،
 مسلم (۳۴) الاصابہ، اسد الغابہ (۳۵) الاصابہ، اسد الغابہ (۳۶) مشکوٰۃ (۳۷)
 ابو داؤد (۳۸) مدارج النبوة (۳۹) ترمذی (۴۰) ترمذی (۴۱) بخاری (۴۲) ترمذی
 (۴۳) بخاری، مسلم (۴۴) کیمیائے سعادت (۴۵) ترمذی (۴۶) ترمذی
 (۴۷) حجۃ اللہ علی العالمین (۴۸) ترمذی (۴۹) بخاری (۵۰) بخاری (۵۱) الاصابہ
 (۵۲) طبقات ابن سعد (۵۳) مرقاۃ (۵۴) مدارج النبوة (۵۵) مسلم (۵۶)
 باب (۵۷) مشکوٰۃ (۵۸) مسلم (۵۹) بخاری، مسلم (۶۰) بہار شریعت (۶۱)
 شریعت (۶۲) ترمذی (۶۳) بہار شریعت (۶۴) بخاری (۶۵) بخاری (۶۶)
 (۶۷) ترمذی (۶۸) الاصابہ (۶۹) الاستیعاب (۷۰) بخاری (۷۱) مسلم
 (۷۲) مسلم (۷۳) کتاب الشفا (۷۴) ابن ماجہ (۷۵) مشکوٰۃ (۷۶) زر قانی،

خصائص کبریٰ (۷۷) خصائص کبریٰ (۷۸) خصائص کبریٰ، حجۃ اللہ علی العالمین
 (۷۹) بخاری (۸۰) ترمذی (۸۱) بخاری (۸۲) بخاری (۸۳) بخاری (۸۴) بخاری
 حصین (۸۵) بخاری (۸۶) مسلم (۸۷) بخاری، مسلم (۸۸) بخاری، مسلم
 (۸۹) بخاری (۹۰) بخاری (۹۱) الاصابہ، اسد الغابہ (۹۲) مسلم (۹۳) مستدرک
 (۹۴) بخاری (۹۵) مسلم (۹۶) مسلم (۹۷) مشکوٰۃ (۹۸) زرقاتی (۹۹) ترمذی
 (۱۰۰) مشکوٰۃ (۱۰۱) مسلم (۱۰۲) مشکوٰۃ (۱۰۳) مشکوٰۃ (۱۰۴) بخاری، مسلم (۱۰۵)
 بخاری (۱۰۶) الاصابہ (۱۰۷) تاریخ خمیس (۱۰۸) بخاری (۱۰۹) مشکوٰۃ (۱۱۰)
 الاصابہ (۱۱۱) تاریخ خمیس (۱۱۲) مشکوٰۃ (۱۱۳) بخاری (۱۱۴) ترمذی (۱۱۵) ترمذی
 (۱۱۶) ترمذی (۱۱۷) ترمذی (۱۱۸) الاصابہ، اسد الغابہ (۱۱۹) بخاری (۱۲۰) بخاری
 (۱۲۱) بخاری (۱۲۲) مشکوٰۃ (۱۲۳) ترمذی (۱۲۴) الاصابہ، اسد الغابہ (۱۲۵)
 بخاری (۱۲۶) ابوداؤد (۱۲۷) الاصابہ، اسد الغابہ (۱۲۸) بخاری (۱۲۹) بخاری
 (۱۳۰) ترمذی (۱۳۱) ابوداؤد (۱۳۲) بخاری، مسلم (۱۳۳) مشکوٰۃ (۱۳۴)
 ترمذی، ابوداؤد (۱۳۵) مسلم (۱۳۶) مشکوٰۃ (۱۳۷) بخاری، مسلم (۱۳۸) بخاری
 (۱۳۹) ابوداؤد (۱۴۰) التحریم: ۶ (۱۴۱) مشکوٰۃ (۱۴۲) نسائی (۱۴۳) ابوداؤد
 (۱۴۴) مشکوٰۃ (۱۴۵) بخاری، تاریخ خمیس (۱۴۶) تاریخ خمیس (۱۴۷) الاصابہ
 (۱۴۸) ابوداؤد (۱۴۹) ابوداؤد (۱۵۰) تاریخ خمیس (۱۵۱) استیغابہ، الاصابہ
 (۱۵۲) بخاری، مسلم (۱۵۳) بخاری (۱۵۴) مشکوٰۃ۔

☆☆☆☆☆

پیر طریقت میں شریعت

علامہ سید شاہ تراب الحق قادری دامت برکاتہم العالیہ

کی جمعہ کی تقاریر 30-12 (ساڑھے بارہ بجے)

انٹرنیٹ پر براہ راست سماعت فرمائیں

www.ahlesunnat.net

جبکہ

دینی مسائل کے حل ای میل پر دریافت فرمائیں

E-mail: sitemaster@ahlesunnat.net

حضرت عالیہ علامہ سید شاہ تراب الحق قادری دامت برکاتہم العالیہ

کی آواز میں ایک ہزار سے زائد شرعی سوالات، جو لبّات پر مشتمل CD

مصلح الدین لائبریری، مبین مسجد، مصلح الدین گارڈن کراچی

سے رعایتی قیمت پر حاصل فرمائیں۔

مفکر اسلام، پیر طریقت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری مدظلہ العالی
کی ایمان افروز اور روح پرور تصانیف

ضیاء الحدیث ★ مسنون دعائیں

دعوت تنظیم ★ مبارک باتیں

تفسیر سورۃ فاتحہ ★ مزارات اولیاء اور توسل

اسلامی عقائد (اردو) ★ جمال مصطفیٰ ﷺ

اسلامی عقائد (انگریزی) ★ فلاح دارین

خواتین اور دینی مسائل ★ عظمت مصطفیٰ ﷺ

کتاب الصلوٰۃ ★ تصوف و طریقت